

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۸۵۲- جَاءَتْكَ	آیات کے پاس
۸۵۵- مَا لَكَ	نہیں تیرے لئے
۸۵۶- عَدَلٌ	بدلہ، برابری
۸۵۷- اِبْتَلَىٰ	آزمایا
	(مصدر: اِبْتَلَا)
۸۵۸- اَتَمَّ	پورا کیا، تمام کیا
۸۵۹- جَاعِلٌ	بنانے والا
۸۶۰- اِمَامًا	پیشوا
۸۶۱- ذُرِّيَّةً	اولاد
	(جمع: ذُرِّيَّاتٌ)
۸۶۲- لَا يَسْأَلُ	نہیں پوچھے گا،
	نہیں حاصل ہوگا
	(ن ی ل)
۸۶۳- عَهْدٌ	وعدہ
۸۶۴- جَعَلْنَا	بنایا ہم نے
۸۶۵- اَلَيْسَتْ	گھر، کعبہ
	(بیت اللہ مراد ہے)
۸۶۶- مَثَابَةٌ	جائے نواب
۸۶۷- اِنْتَجِدُوا	مقرر کرو

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۸۶۸- مَقَامًا يُؤْتِيهِمْ	مقام کے لئے رہنے کی جگہ
	حضرت ابراہیمؑ کی
۸۶۹- مُصَلًّى	جائے نماز
۸۷۰- طَهْرًا	پاک رکھو تم دونوں
۸۷۱- طَائِفَتَيْنِ	طواف کرنے والے
	(ط و ف)
۸۷۲- عَاكِفِينَ	اعتکاف کرنے والے
۸۷۳- مَرَجِعِ السُّجُودِ	رکوع سجدہ کرنے والے
۸۷۴- اَمِنًا	امن والا
۸۷۵- اُمْرًا نَقِيًّا	رزق دے
۸۷۶- اَهْلًا	رہنے والے
۸۷۷- اُمْتِعْ	فائدہ دے گا
	(م ت ع)
۸۷۸- اَضْطَرُّ	بے بس کر دوں گا،
	مجبور کر دوں گا
	(ض س ر)
۸۷۹- رَفَعَ	اُچھا اٹھایا
۸۸۰- قَوَاعِدَ	دیواریں
	(دواحد: قَاعِدَةٌ)
۸۸۱- تَقْبَلْنَ	قبول کرے
۸۸۲- اُمَّتًا	جماعت، امت (جمع: اُمَّةٌ)

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۸۸۳- اَمْرًا	دکھا، ہم کو
	دائری سے فعل مر
۸۸۴- مَنَاسِكَ	حج کے احکام،
	بندگی کے احکام،
	طریقہ عبادت
۸۸۵- تَبَّ	متوجہ ہونا
۸۸۶- اِنْعَثَ	بھج، کھڑا کر
۸۸۷- اَلْحِكْمَةَ	دانشمندی، حکمت
۸۸۸- يَوْمَئِذٍ	پاک کرے، ستھر کرے
	صاف کرے۔
	(ن ی ل)
۸۸۹- رَغِبَ رَغْبًا	اعراض کرنا،
	نا پسند کرنا۔
	(رَغِبَ رَغْبًا) رغبت کرنا، چاہنا
	پسند کرنا، راغب
	ہونا۔ لیکن اگر
	اس کے بعد عن
	ہو تو معنی ہوں گے
	د اعراض کرنا،
	یہاں چونکہ رَغِبَ
۸۹۰- اَسْلَمَ	مطمئن ہو جا،
	مسلم ہو جا
۸۹۱- اِصْطَفَيْنَا	ہم نے پسند کیا
	(جُن لِينَا پسند کرنا)
۸۹۲- اَسْلَمَ	مطمئن ہو جا،
	مسلم ہو جا
۸۹۳- وَصِيًّا	وصیت کی
۸۹۴- يَتِيمًا	بیٹے
۸۹۵- يَتِيمًا	اے یتیم میسر
۸۹۶- اِدْحَضُوا	جب آئی
۸۹۷- اِلَيْهِ	معبود
۸۹۸- اَبَاءًا	باپ دادا
	(دواحد: اَبٌ)
۸۹۹- خَلَّتْ	ہو گزری
۹۰۰- عَمَّا	اس چیز
۹۰۱- كُنُوزًا	ہو جاؤ

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۰۲۔ تَهْتَدُوا ہدایت پا جاؤ گے
 ۹۰۳۔ خَنِيْفًا يَكْسُو جمع، خُنْفَاءُ
 ۹۰۴۔ الْأَسْبَاطُ اولاد یعقوب
 ۹۰۵۔ أُذُنِي دے گئے
 ۹۰۶۔ نَبِيُّوْنِ نبی
 ۹۰۷۔ فَرَقَ فرق کرنا،
 جلدانی ڈالنا
 (مصدر: تَفَرَّقُوا)
 ۹۰۸۔ بَيْنِي درمیان
 ۹۰۹۔ أَحَدٍ کسی ایک،
 کوئی ایک
 ۹۱۰۔ تَوَدُّوا پھر جاویں وہ
 ۹۱۱۔ شَقَاتُ اختلاف
 ۹۱۲۔ فِی پس
 ۹۱۳۔ سِی قریب
 ۹۱۴۔ يَكْتُمِي عَنقَرِیْب
 کانی ہوگا
 (مصدر: كَفَّأَيْتُهُ)
 ۹۱۵۔ لَفَّ جھکو

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۱۶۔ هُمُ اللّٰهُ اُن کے مقابلے
 میں اللہ
 (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ)
 ۹۱۷۔ صَبْعَةً رنگ
 ۹۱۸۔ مَنِي كُون،
 کس کا
 ۹۱۹۔ أَحْسَنُ زیادہ اچھا،
 زیادہ بہتر
 ۹۲۰۔ غِبْدُوْنَ بندگی کرنے والے
 (واحد: غَابِدٌ)
 ۹۲۱۔ فِي اللّٰهِ اللہ کے بارے میں
 ۹۲۲۔ مُخْلِصُوْنَ مخلص ہو کر بندگی
 کرنے والے۔
 ۹۲۳۔ أَغْلَمُ زیادہ واقف
 ۹۲۴۔ كَتَمَ جھپٹانا
 ۹۲۵۔ شَهَادَةٌ گواہی
 (جمع: شَهَادَاتٌ)

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۲۶۔ سِی عَنقَرِیْب، پس اب
 ۹۲۷۔ مَا كَذَّبْتُمْ کس چینیہ پھیر دیا
 اُن کو
 ۹۲۸۔ قَبْلَةَ قبلہ
 ۹۲۹۔ أُمَّةٌ وَسَطًا اُمت درمیان،
 بیچ کی راہ
 ۹۳۰۔ كَذَّالِكُ ایسی طرح
 ۹۳۱۔ مَا جَعَلْنَا نہیں بنایا ہم نے
 ۹۳۲۔ مَنِي كُون ساد من اور من
 کامرکب ہے،
 ۹۳۳۔ يَنْقَلِبُ پھر جاتا ہے
 (مصدر: انْقَلَابٌ)
 ۹۳۴۔ عَقِبْتُ ایڑی
 ۹۳۵۔ عَقْبِيَه ایسی ایڑیوں پر
 (اُلٹے پھرنے کے
 لئے بولا جاتا ہے،
 ۹۳۶۔ اِنْ كَانَتْ اگر چہ تھی

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۳۷۔ نِی البتہ، ضرور
 ۹۳۸۔ كَبِيْرَةً بڑی بات
 ۹۳۹۔ يُضَيِّعُ ضائع کرے
 (ض ی ع)
 ۹۴۰۔ سِرْوَتِي شہقت رکھنے والا
 ۹۴۱۔ قَدَّ تحقیق
 ۹۴۲۔ نَدِي ہم دیکھتے ہیں
 ۹۴۳۔ تَقَلَّبُ پھرنا، پلٹنا
 (ق ل ب)
 ۹۴۴۔ وَجْهَكَ تیرا چہرہ
 ۹۴۵۔ فَلْتَوَلِّيْنِكَ پس البتہ پھیریں گے
 ہم جھکو۔
 (سہولت کیلئے نیچے الگ الگ دیکھئے)
 ۹۴۶۔ فِی پس
 ۹۴۷۔ نِی البتہ، ضرور
 ۹۴۸۔ تَوَلِّيْی ہم پھیر دیں گے
 (د د ل ی)
 ۹۴۹۔ اَنْ ضرور (بیشک)
 ۹۵۰۔ وَلِي پھیر دے
 (فعل امر)
 ۹۵۱۔ شَطْرُ طرف

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۹۵۲- كُنْتُمْ فِي الْحَارِ	۹۵۲- كُنْتُمْ فِي الْحَارِ	۹۵۲- كُنْتُمْ فِي الْحَارِ	۹۵۲- كُنْتُمْ فِي الْحَارِ
مکہ مکرمہ کی مسجد،	مکہ مکرمہ کی مسجد،	مکہ مکرمہ کی مسجد،	مکہ مکرمہ کی مسجد،
جہاں کعبہ ہے۔	جہاں کعبہ ہے۔	جہاں کعبہ ہے۔	جہاں کعبہ ہے۔
۹۵۳- حَيْثُ	۹۵۳- حَيْثُ	۹۵۳- حَيْثُ	۹۵۳- حَيْثُ
جہاں کہیں جس جگہ	جہاں کہیں جس جگہ	جہاں کہیں جس جگہ	جہاں کہیں جس جگہ
۹۵۴- اَدْوَالِ الْكُتُبِ	۹۵۴- اَدْوَالِ الْكُتُبِ	۹۵۴- اَدْوَالِ الْكُتُبِ	۹۵۴- اَدْوَالِ الْكُتُبِ
دئے گئے کتاب	دئے گئے کتاب	دئے گئے کتاب	دئے گئے کتاب
۹۵۵- مَا	۹۵۵- مَا	۹۵۵- مَا	۹۵۵- مَا
نہیں	نہیں	نہیں	نہیں
۹۵۶- لَيْكُنْ	۹۵۶- لَيْكُنْ	۹۵۶- لَيْكُنْ	۹۵۶- لَيْكُنْ
لیکن	لیکن	لیکن	لیکن
۹۵۷- اَتَكْتَبُ	۹۵۷- اَتَكْتَبُ	۹۵۷- اَتَكْتَبُ	۹۵۷- اَتَكْتَبُ
لاوے تو	لاوے تو	لاوے تو	لاوے تو
۹۵۸- يَعْزِفُونَ	۹۵۸- يَعْزِفُونَ	۹۵۸- يَعْزِفُونَ	۹۵۸- يَعْزِفُونَ
پہچانتے ہیں	پہچانتے ہیں	پہچانتے ہیں	پہچانتے ہیں
(مصدر: مَعْرِفَةٌ)	(مصدر: مَعْرِفَةٌ)	(مصدر: مَعْرِفَةٌ)	(مصدر: مَعْرِفَةٌ)
۹۵۹- اَبْنَاءُ	۹۵۹- اَبْنَاءُ	۹۵۹- اَبْنَاءُ	۹۵۹- اَبْنَاءُ
بیٹے	بیٹے	بیٹے	بیٹے
(واحد: ابْنٌ)	(واحد: ابْنٌ)	(واحد: ابْنٌ)	(واحد: ابْنٌ)
۹۶۰- كَتَمَ	۹۶۰- كَتَمَ	۹۶۰- كَتَمَ	۹۶۰- كَتَمَ
چھپانا	چھپانا	چھپانا	چھپانا
۹۶۱- مُمْتَرِينَ	۹۶۱- مُمْتَرِينَ	۹۶۱- مُمْتَرِينَ	۹۶۱- مُمْتَرِينَ
شک لانے والے	شک لانے والے	شک لانے والے	شک لانے والے
۹۶۲- وَجْهَتُهُ	۹۶۲- وَجْهَتُهُ	۹۶۲- وَجْهَتُهُ	۹۶۲- وَجْهَتُهُ
رخ	رخ	رخ	رخ
۹۶۳- مَوْتِي	۹۶۳- مَوْتِي	۹۶۳- مَوْتِي	۹۶۳- مَوْتِي
پھرنے والا	پھرنے والا	پھرنے والا	پھرنے والا
۹۶۴- اسْتَبْعُوا	۹۶۴- اسْتَبْعُوا	۹۶۴- اسْتَبْعُوا	۹۶۴- اسْتَبْعُوا
سبقت چاہو،	سبقت چاہو،	سبقت چاہو،	سبقت چاہو،
آگے بڑھو	آگے بڑھو	آگے بڑھو	آگے بڑھو
۹۶۵- حَيَاتٍ	۹۶۵- حَيَاتٍ	۹۶۵- حَيَاتٍ	۹۶۵- حَيَاتٍ
نیکیاں	نیکیاں	نیکیاں	نیکیاں

پارہ نمبر (۲۱)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۹۶۶- اَيَّتِنَا	۹۶۶- اَيَّتِنَا	۹۶۶- اَيَّتِنَا	۹۶۶- اَيَّتِنَا
جہاں کہیں	جہاں کہیں	جہاں کہیں	جہاں کہیں
۹۶۷- وَآلٍ	۹۶۷- وَآلٍ	۹۶۷- وَآلٍ	۹۶۷- وَآلٍ
پھر دے	پھر دے	پھر دے	پھر دے
۹۶۸- لَعَلَّ	۹۶۸- لَعَلَّ	۹۶۸- لَعَلَّ	۹۶۸- لَعَلَّ
تاکہ نہ (اصل لفظ:	تاکہ نہ (اصل لفظ:	تاکہ نہ (اصل لفظ:	تاکہ نہ (اصل لفظ:
لی معنی کے لئے	لی معنی کے لئے	لی معنی کے لئے	لی معنی کے لئے
۹۶۹- حُجَّةٌ	۹۶۹- حُجَّةٌ	۹۶۹- حُجَّةٌ	۹۶۹- حُجَّةٌ
دلیل، حجت	دلیل، حجت	دلیل، حجت	دلیل، حجت
۹۷۰- اُنْتُمْ	۹۷۰- اُنْتُمْ	۹۷۰- اُنْتُمْ	۹۷۰- اُنْتُمْ
تمام کروں میں	تمام کروں میں	تمام کروں میں	تمام کروں میں
۹۷۱- لَعَلَّ	۹۷۱- لَعَلَّ	۹۷۱- لَعَلَّ	۹۷۱- لَعَلَّ
شاید، تاکہ	شاید، تاکہ	شاید، تاکہ	شاید، تاکہ
۹۷۲- تَهْتَدُونَ	۹۷۲- تَهْتَدُونَ	۹۷۲- تَهْتَدُونَ	۹۷۲- تَهْتَدُونَ
تم ہدایت پاؤ	تم ہدایت پاؤ	تم ہدایت پاؤ	تم ہدایت پاؤ
۹۷۳- كَمَا	۹۷۳- كَمَا	۹۷۳- كَمَا	۹۷۳- كَمَا
جیسا کہ	جیسا کہ	جیسا کہ	جیسا کہ
۹۷۴- اَنْ سَلْنَا	۹۷۴- اَنْ سَلْنَا	۹۷۴- اَنْ سَلْنَا	۹۷۴- اَنْ سَلْنَا
بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے
۹۷۵- فَيَكْمُ	۹۷۵- فَيَكْمُ	۹۷۵- فَيَكْمُ	۹۷۵- فَيَكْمُ
بیچ تمہارے	بیچ تمہارے	بیچ تمہارے	بیچ تمہارے
۹۷۶- يَتَلَوُّوا	۹۷۶- يَتَلَوُّوا	۹۷۶- يَتَلَوُّوا	۹۷۶- يَتَلَوُّوا
تلاوت کرتا ہے	تلاوت کرتا ہے	تلاوت کرتا ہے	تلاوت کرتا ہے
(مصدر: تَلَاوَةٌ)	(مصدر: تَلَاوَةٌ)	(مصدر: تَلَاوَةٌ)	(مصدر: تَلَاوَةٌ)
۹۷۷- ذِكْرٌ	۹۷۷- ذِكْرٌ	۹۷۷- ذِكْرٌ	۹۷۷- ذِكْرٌ
یاد کرنا	یاد کرنا	یاد کرنا	یاد کرنا
۹۷۸- شُكْرٌ	۹۷۸- شُكْرٌ	۹۷۸- شُكْرٌ	۹۷۸- شُكْرٌ
شکر کرنا	شکر کرنا	شکر کرنا	شکر کرنا
۹۷۹- مَعَ	۹۷۹- مَعَ	۹۷۹- مَعَ	۹۷۹- مَعَ
ساتھ	ساتھ	ساتھ	ساتھ
۹۸۰- سَبِيلِ اللَّهِ	۹۸۰- سَبِيلِ اللَّهِ	۹۸۰- سَبِيلِ اللَّهِ	۹۸۰- سَبِيلِ اللَّهِ
اللہ کی راہ (مقاماً الیہ)	اللہ کی راہ (مقاماً الیہ)	اللہ کی راہ (مقاماً الیہ)	اللہ کی راہ (مقاماً الیہ)

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۹۸۱- اَمْوَاتٍ	۹۸۱- اَمْوَاتٍ	۹۸۱- اَمْوَاتٍ	۹۸۱- اَمْوَاتٍ
مردے	مردے	مردے	مردے
(واحد: مَيِّتٌ)	(واحد: مَيِّتٌ)	(واحد: مَيِّتٌ)	(واحد: مَيِّتٌ)
۹۸۲- اَحْيَاءُ	۹۸۲- اَحْيَاءُ	۹۸۲- اَحْيَاءُ	۹۸۲- اَحْيَاءُ
زندے	زندے	زندے	زندے
(واحد: حَيٌّ)	(واحد: حَيٌّ)	(واحد: حَيٌّ)	(واحد: حَيٌّ)
۹۸۳- فَبَلَّوْا	۹۸۳- فَبَلَّوْا	۹۸۳- فَبَلَّوْا	۹۸۳- فَبَلَّوْا
ہم آزمائیں گے	ہم آزمائیں گے	ہم آزمائیں گے	ہم آزمائیں گے
۹۸۴- جُوعٌ	۹۸۴- جُوعٌ	۹۸۴- جُوعٌ	۹۸۴- جُوعٌ
بھوک	بھوک	بھوک	بھوک
۹۸۵- نَقْصٌ	۹۸۵- نَقْصٌ	۹۸۵- نَقْصٌ	۹۸۵- نَقْصٌ
نقصان	نقصان	نقصان	نقصان
۹۸۶- اَمْوَالٌ	۹۸۶- اَمْوَالٌ	۹۸۶- اَمْوَالٌ	۹۸۶- اَمْوَالٌ
مال کی جمع	مال کی جمع	مال کی جمع	مال کی جمع
۹۸۷- تَهْمَاتٌ	۹۸۷- تَهْمَاتٌ	۹۸۷- تَهْمَاتٌ	۹۸۷- تَهْمَاتٌ
پھل	پھل	پھل	پھل
(واحد: تَهْمَةٌ)	(واحد: تَهْمَةٌ)	(واحد: تَهْمَةٌ)	(واحد: تَهْمَةٌ)
۹۸۸- اَصَابَتْ	۹۸۸- اَصَابَتْ	۹۸۸- اَصَابَتْ	۹۸۸- اَصَابَتْ
پڑی، پہنچی	پڑی، پہنچی	پڑی، پہنچی	پڑی، پہنچی
۹۸۹- مُصِيبَةٌ	۹۸۹- مُصِيبَةٌ	۹۸۹- مُصِيبَةٌ	۹۸۹- مُصِيبَةٌ
مصیبت	مصیبت	مصیبت	مصیبت
۹۹۰- صَلَوَاتٌ	۹۹۰- صَلَوَاتٌ	۹۹۰- صَلَوَاتٌ	۹۹۰- صَلَوَاتٌ
رحمت	رحمت	رحمت	رحمت
۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَّةٌ	۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَّةٌ	۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَّةٌ	۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَّةٌ
دو پہاڑیوں کے نام	دو پہاڑیوں کے نام	دو پہاڑیوں کے نام	دو پہاڑیوں کے نام
جو کہ میں مسجد حرام	جو کہ میں مسجد حرام	جو کہ میں مسجد حرام	جو کہ میں مسجد حرام
کے قریب ہیں	کے قریب ہیں	کے قریب ہیں	کے قریب ہیں
۹۹۲- شَعَائِرٌ	۹۹۲- شَعَائِرٌ	۹۹۲- شَعَائِرٌ	۹۹۲- شَعَائِرٌ
نشانیوں	نشانیوں	نشانیوں	نشانیوں
۹۹۳- حَجَّجَ	۹۹۳- حَجَّجَ	۹۹۳- حَجَّجَ	۹۹۳- حَجَّجَ
حج کرنا	حج کرنا	حج کرنا	حج کرنا
۹۹۴- اَعْتَمَرُوا	۹۹۴- اَعْتَمَرُوا	۹۹۴- اَعْتَمَرُوا	۹۹۴- اَعْتَمَرُوا
عمرہ کرنا	عمرہ کرنا	عمرہ کرنا	عمرہ کرنا
عمرہ طواف کعبہ اور	عمرہ طواف کعبہ اور	عمرہ طواف کعبہ اور	عمرہ طواف کعبہ اور

پارہ نمبر ۲۱

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو	نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
صفا و مروہ کی سعی کرنے کو کہتے ہیں ،	۱۰۰۵۔ ذَهَابٌ	۱۰۰۱۔ تَبِعُوا	نمبر شمار عربی
یہ ایام حج کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے۔	۱۰۰۴۔ فَلَكٌ	۱۰۰۲۔ اتَّبَعُوا	اردو
ایک طرح سے چھوٹا حج کہ عرفات کے میدان میں حاقری ضروری نہیں۔	۱۰۰۳۔ تَجْرِي	۱۰۰۳۔ قَطَعَ	نمبر شمار عربی
گناہ	۱۰۰۸۔ يَحْوِي	۱۰۰۴۔ اشْبَابٌ	اردو
نوشی سے کیا	۱۰۰۹۔ بَشٌّ	۱۰۰۵۔ لَوْ اَنَّ لَنَا كَاشٌ هُوَ يَهْدِي لَهٗ	نمبر شمار عربی
قدر و امان	۱۰۱۰۔ ذَابِئَةٌ	۱۰۰۶۔ كَوَّوْهُ	اردو
جاننے والا	۱۰۱۱۔ تَصْوِيفٌ	۱۰۰۷۔ حَسَوَاتٌ	نمبر شمار عربی
سب ہلکا کرنا	۱۰۱۲۔ مَرِيحٌ	۱۰۰۸۔ خَاصِرٌ جِيئٌ	اردو
مہلت دے جائیں گے	۱۰۱۳۔ سَحَابٌ	۱۰۰۹۔ نَاسٌ	نمبر شمار عربی
دن ظ س	۱۰۱۴۔ مُسَحٌّ	۱۰۱۰۔ طَيِّبًا	اردو
پیدا نش، پیدا کرنا	۱۰۱۵۔ بَيْنٌ	۱۰۱۱۔ طَيِّبًا	نمبر شمار عربی
بدلتے آنا آگے پیچھے	۱۰۱۶۔ دُونَ اللّٰهِ	۱۰۱۲۔ حَطَوَاتٌ	اردو
رات	۱۰۱۷۔ اُنْذَادًا	۱۰۱۳۔ سُوْعٌ	نمبر شمار عربی
جمع: نیائی	۱۰۱۸۔ حُبٌّ	۱۰۱۴۔ فَحْشَاءٌ	اردو
	۱۰۱۹۔ اَشْدُّ	۱۰۱۵۔ اَلْقَيْنَا	نمبر شمار عربی
	۱۰۲۰۔ تَبَرَّأَ	۱۰۱۶۔ اَوْلُوْهُ	اردو
		۱۰۱۷۔ نَعَىٰ	نمبر شمار عربی
		۱۰۱۸۔ دُعَاءٌ	اردو

پارہ نمبر ۲۲

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو	نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
پیکارنا	۱۰۳۸۔ يَدَا	۱۰۲۱۔ اتَّبَعُوا	نمبر شمار عربی
اسی کی	۱۰۳۹۔ اَيَّاهُ	۱۰۲۲۔ اتَّبَعُوا	اردو
حرام کیا	۱۰۴۰۔ حَرَّمَ	۱۰۲۳۔ قَطَعَ	نمبر شمار عربی
مردار	۱۰۴۱۔ مَمِيَّةٌ	۱۰۲۴۔ اشْبَابٌ	اردو
خون بہو	۱۰۴۲۔ دَمٌ	۱۰۲۵۔ لَوْ اَنَّ لَنَا كَاشٌ هُوَ يَهْدِي لَهٗ	نمبر شمار عربی
گوشت	۱۰۴۳۔ لَحْمٌ	۱۰۲۶۔ كَوَّوْهُ	اردو
سور	۱۰۴۴۔ خَنْزِيرٌ	۱۰۲۷۔ حَسَوَاتٌ	نمبر شمار عربی
پکارا جائے، نامزد کیا جائے۔	۱۰۴۵۔ اَهْلٌ	۱۰۲۸۔ خَاصِرٌ جِيئٌ	اردو
بے بس ہو جاتے	۱۰۴۶۔ اَضْطُرُّ	۱۰۲۹۔ نَاسٌ	نمبر شمار عربی
بے سخی کرنے والا	۱۰۴۷۔ بَاغٌ	۱۰۳۰۔ طَيِّبًا	اردو
زیادتی کرنے والا	۱۰۴۸۔ حَادٍ	۱۰۳۱۔ حَطَوَاتٌ	نمبر شمار عربی
گناہ	۱۰۴۹۔ اِثْمٌ	۱۰۳۲۔ سُوْعٌ	اردو
پریٹ	۱۰۵۰۔ بَطُونٌ	۱۰۳۳۔ فَحْشَاءٌ	نمبر شمار عربی
(واحد: بَطْنٌ)		۱۰۳۴۔ اَلْقَيْنَا	اردو
کیسا صبر ہے ان کو	۱۰۵۱۔ فَا اَصْبِرْ لَهُمْ	۱۰۳۵۔ اَوْلُوْهُ	نمبر شمار عربی
ضد رقی سے علیحدہ ہو کر بچھٹ جانا،	۱۰۵۲۔ شَقَاقٌ	۱۰۳۶۔ نَعَىٰ	اردو
		۱۰۳۷۔ دُعَاءٌ	نمبر شمار عربی
			اردو

الربع

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۵۴۔ لَيْسَ	نہیں ہے
۱۰۵۵۔ جِدُّ	نیکی، بھلائی
۱۰۵۶۔ قَبِيلٌ	طرف
۱۰۵۷۔ اُنْفَى	دیا
	(مصدر: اِنْفَاءً)
۱۰۵۸۔ ذَوِي الْقُرْبَىٰ	قرابت والے
۱۰۵۹۔ يَتِيْمٌ	یتیم
	(واحد: يَتِيْمٌ)
۱۰۶۰۔ مَسْكِيْنٌ	مسکین کی جمع
	(واحد: مَسْكِيْنٌ)
۱۰۶۱۔ اِبْنِ السَّبِيْلِ	راہ چلتے مسافر
۱۰۶۲۔ سَائِلِيْنَ	سوال کرنے والے
۱۰۶۳۔ مِرْقَابٌ	گردن (جمع ہے)
	واحد: مِرْقَبَةٌ
۱۰۶۴۔ مُؤْتُوْنَ	پورا کرنے والے
۱۰۶۵۔ بَأْسَاءٌ	شخصی، شدت،
	تقر وفاق، تکلفی
۱۰۶۶۔ ضَرَاءٌ	مرض کی تکلیف یا مال
۱۰۶۷۔ جِبِيْنَ الرَّبِاسِ	رطائی کے وقت
۱۰۶۸۔ صَدَقُوا	سچ ہوئے
	(ص د ق)

سورہ لقہ (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۶۹۔ مُتَّقُوْنَ	پرہیزگار،
	گناہوں سے
۱۰۷۰۔ كَتَبَ	لکھنے والے
	لکھا گیا
۱۰۷۱۔ وَصَاحُصٌ	برابر کا بدلہ
۱۰۷۲۔ قَتْلَىٰ	مارے گئے لوگ
۱۰۷۳۔ اَلْعُرَاۗءُ	آزاد
۱۰۷۴۔ عَبْدٌ	غلام
۱۰۷۵۔ اُنْثَىٰ	عورت
۱۰۷۶۔ عُفَىٰ	معاف رکھا جائے
۱۰۷۷۔ اِنْجِيَهٗ	بھائی اس کا
۱۰۷۸۔ اِزْتَابَعُ	اتباع کرنا
۱۰۷۹۔ مَعْرُوْفٌ	بھلائی
	دستور کے موافق
۱۰۸۰۔ اِدَاعٌ	ادا کرنا
۱۰۸۱۔ اِحْسَانٌ	نیکی، اچھائی
۱۰۸۲۔ تَخْفِيْفٌ	آسانی
۱۰۸۳۔ اِغْتَدَىٰ	زیادتی کرے
۱۰۸۴۔ حَيَوَاتٌ	زندگی
۱۰۸۵۔ اَوْلَىٰ اِلَّا	عقل والے
	لُبَابٌ

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

لُبٌّ	بمعنی عقل
اَوْلَىٰ	اولیٰ، اولیٰ، اولیٰ
۱۰۸۶۔ حَاضِرٌ	حاضر، موجود
۱۰۸۷۔ تَرَكٌ	چھوڑا
	(ت ر ك)
۱۰۸۸۔ حَيٰوٌ	مال
۱۰۸۹۔ وَصِيَّةٌ	وصیت
۱۰۹۰۔ سَمِعٌ	سنا اس نے
	(س م ع)
۱۰۹۱۔ اِثْمٌ	گناہ
۱۰۹۲۔ خَافٌ	خوف کیا
۱۰۹۳۔ مَوْصٌ	وصیت کرنے والا
۱۰۹۴۔ جَنَفًا	بھگی، ٹیڑھا پن
	پنچ
۱۰۹۵۔ صِيَامٌ	روزے
	(واحد: صَوْمٌ)
۱۰۹۶۔ كَمَا	جیسے کہ
۱۰۹۷۔ اَيَّامٌ	دن
	(واحد: يَوْمٌ)
۱۰۹۸۔ مَعْدُوْدَةٌ	گنتی کے، گنے ہوئے
۱۰۹۹۔ عِلَّةٌ	گنتی

سورہ بقرہ (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۰۰۔ تَكْلِيْفًا	بڑائی بیان کرو
۱۱۰۱۔ سَأَلَ	سوال کرنا
	(مصدر: سَأَلَ)
۱۱۰۲۔ عَتَىٰ	میں متعلق
	(ع ن ي)
۱۱۰۳۔ اُجِيْبٌ	پہنچتا ہوں،
	قبول کرتا ہوں
۱۱۰۴۔ دَعْوَةٌ	پکار
۱۱۰۵۔ دَاعٍ	پکارنے والا
	(دعَا يَدْعُوْهُ)
	اسم فاعل
۱۱۰۶۔ دَعَانٌ	پکارا مجھے
	د ن اصل میں نون
	ہے لیکن اس کا
	مخفف فقط نون
	رہ گیا دونوں کے معنی
	ایک ہی ہیں یعنی مجھے
	یا میں نے قرآن
	میں ایسے بہت سے
	مقامات ہیں جہاں
	نون لکھتے ہوتے

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی	اُردو	نمبر شمار عربی	اُردو
۱۱۱۸	عَقَا	۱۱۱۸	تھے تم (خون)
۱۱۱۹	اَللُّنَّ	۱۱۱۹	معاف کیا
۱۱۲۰	بَاثُوْا	۱۱۲۰	اب
۱۱۲۱	اِبْتَعُوْا	۱۱۲۱	میل رکھو
۱۱۲۲	حَيْطُ	۱۱۲۲	(مصدر: مَبَاثُوَةٌ)
۱۱۲۳	اَبْيَضُ	۱۱۲۳	چاہو، ڈھونڈو
۱۱۲۴	اَسْوَدُ	۱۱۲۴	دھاری
۱۱۲۵	تَنَلُوْا	۱۱۲۵	سفید
۱۱۲۶	اَبْرَأَ	۱۱۲۶	سیاہ
۱۱۲۷	اَبْرَأَ	۱۱۲۷	پہنچانا، کھینچ لیا جانا
۱۱۲۸	اَبْرَأَ	۱۱۲۸	(د دل ہی)
۱۱۲۹	اَبْرَأَ	۱۱۲۹	(اصل معنی کنویں
۱۱۳۰	اَبْرَأَ	۱۱۳۰	میں ڈال دینے کے
۱۱۳۱	اَبْرَأَ	۱۱۳۱	آتے ہیں۔ حکام
۱۱۳۲	اَبْرَأَ	۱۱۳۲	کے پاس بجا نکالت
۱۱۳۳	اَبْرَأَ	۱۱۳۳	پہنچا کر اپنے آپ کو
۱۱۳۴	اَبْرَأَ	۱۱۳۴	اوردو سروں کو
۱۱۳۵	اَبْرَأَ	۱۱۳۵	کتوں میں ڈالنے
۱۱۳۶	اَبْرَأَ	۱۱۳۶	کے برابر ہی ہے
۱۱۳۷	اَبْرَأَ	۱۱۳۷	پہنچ
۱۱۳۸	اَبْرَأَ	۱۱۳۸	چاند کا نیا نکلتا
۱۱۳۹	اَبْرَأَ	۱۱۳۹	اَهْلَةٌ
۱۱۴۰	اَبْرَأَ	۱۱۴۰	صرف ن لکھا گیا ہے
۱۱۴۱	اَبْرَأَ	۱۱۴۱	مشاں کے طور پر
۱۱۴۲	اَبْرَأَ	۱۱۴۲	فَاتَقُونَ پس
۱۱۴۳	اَبْرَأَ	۱۱۴۳	ڈرو مجھ سے۔ ایں
۱۱۴۴	اَبْرَأَ	۱۱۴۴	بھی تھی کا ہی ختم
۱۱۴۵	اَبْرَأَ	۱۱۴۵	کر کے ن کے نیچے
۱۱۴۶	اَبْرَأَ	۱۱۴۶	زیر لگا دیا گیا۔
۱۱۴۷	اَبْرَأَ	۱۱۴۷	۱۱۴۷۔ فَلَئِنَّ سَمِيْعًا
۱۱۴۸	اَبْرَأَ	۱۱۴۸	پس چاہئے کہ قبول
۱۱۴۹	اَبْرَأَ	۱۱۴۹	کریں وہ۔
۱۱۵۰	اَبْرَأَ	۱۱۵۰	(ج و ب)
۱۱۵۱	اَبْرَأَ	۱۱۵۱	میں نے یا جھکو
۱۱۵۲	اَبْرَأَ	۱۱۵۲	بھلائی
۱۱۵۳	اَبْرَأَ	۱۱۵۳	حلال کیا گیا
۱۱۵۴	اَبْرَأَ	۱۱۵۴	۱۱۵۴۔ لَيْلَةَ الْقِيَامِ
۱۱۵۵	اَبْرَأَ	۱۱۵۵	رات روزوں کی
۱۱۵۶	اَبْرَأَ	۱۱۵۶	مباشرت کرنا،
۱۱۵۷	اَبْرَأَ	۱۱۵۷	بے پردہ ہونا
۱۱۵۸	اَبْرَأَ	۱۱۵۸	۱۱۵۸۔ نِسَاءً كُفْرًا
۱۱۵۹	اَبْرَأَ	۱۱۵۹	بیویاں تمہاری
۱۱۶۰	اَبْرَأَ	۱۱۶۰	۱۱۶۰۔ هُنَّ
۱۱۶۱	اَبْرَأَ	۱۱۶۱	وہ (مؤنث کیلئے)
۱۱۶۲	اَبْرَأَ	۱۱۶۲	پوشاک
۱۱۶۳	اَبْرَأَ	۱۱۶۳	۱۱۶۳۔ اَنْتُمْ
۱۱۶۴	اَبْرَأَ	۱۱۶۴	تم تم
۱۱۶۵	اَبْرَأَ	۱۱۶۵	۱۱۶۵۔ تَحْتَاوُونَ
۱۱۶۶	اَبْرَأَ	۱۱۶۶	خیانت کرتے

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی	اُردو	نمبر شمار عربی	اُردو
۱۱۳۰	اَلْهَدَىٰ	۱۱۳۰	وقت معلوم کرنے
۱۱۳۱	لَا تَخْلُقُوْا	۱۱۳۱	کا ذریعہ۔
۱۱۳۲	مَتْمِدًا	۱۱۳۲	(واحد: مِتْمِدَاتٌ)
۱۱۳۳	مَتْمِدًا	۱۱۳۳	گھر جمع ہے اس کا
۱۱۳۴	مَتْمِدًا	۱۱۳۴	(واحد: مِتْمِدَةٌ)
۱۱۳۵	مَتْمِدًا	۱۱۳۵	۱۱۳۵۔ اَبْوَابُ
۱۱۳۶	مَتْمِدًا	۱۱۳۶	دروازے
۱۱۳۷	مَتْمِدًا	۱۱۳۷	(واحد: بَابٌ)
۱۱۳۸	مَتْمِدًا	۱۱۳۸	۱۱۳۸۔ قَاتِلُوْا
۱۱۳۹	مَتْمِدًا	۱۱۳۹	لڑو
۱۱۴۰	مَتْمِدًا	۱۱۴۰	۱۱۴۰۔ تَقَفْ
۱۱۴۱	مَتْمِدًا	۱۱۴۱	پانا
۱۱۴۲	مَتْمِدًا	۱۱۴۲	۱۱۴۲۔ تَقَفْتُمْ
۱۱۴۳	مَتْمِدًا	۱۱۴۳	پاؤ تم
۱۱۴۴	مَتْمِدًا	۱۱۴۴	(د ت ق ف)
۱۱۴۵	مَتْمِدًا	۱۱۴۵	۱۱۴۵۔ اِنْتَهُوْا
۱۱۴۶	مَتْمِدًا	۱۱۴۶	باز رہیں وہ
۱۱۴۷	مَتْمِدًا	۱۱۴۷	(مصدر: اِنْتِهَاءٌ)
۱۱۴۸	مَتْمِدًا	۱۱۴۸	۱۱۴۸۔ عَلَ دَائٍ
۱۱۴۹	مَتْمِدًا	۱۱۴۹	زیادتی
۱۱۵۰	مَتْمِدًا	۱۱۵۰	۱۱۵۰۔ شَهْرًا
۱۱۵۱	مَتْمِدًا	۱۱۵۱	۱۱۵۱۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۲	مَتْمِدًا	۱۱۵۲	۱۱۵۲۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۳	مَتْمِدًا	۱۱۵۳	۱۱۵۳۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۴	مَتْمِدًا	۱۱۵۴	۱۱۵۴۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۵	مَتْمِدًا	۱۱۵۵	۱۱۵۵۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۶	مَتْمِدًا	۱۱۵۶	۱۱۵۶۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۷	مَتْمِدًا	۱۱۵۷	۱۱۵۷۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۸	مَتْمِدًا	۱۱۵۸	۱۱۵۸۔ حُرْمَتِ
۱۱۵۹	مَتْمِدًا	۱۱۵۹	۱۱۵۹۔ حُرْمَتِ
۱۱۶۰	مَتْمِدًا	۱۱۶۰	۱۱۶۰۔ حُرْمَتِ

سُورَةُ بَقُرَّةٍ (۲)

نمبر شمار عربی	اُردو
۱۱۳۰	اَلْهَدَىٰ
۱۱۳۱	لَا تَخْلُقُوْا
۱۱۳۲	مَتْمِدًا
۱۱۳۳	مَتْمِدًا
۱۱۳۴	مَتْمِدًا
۱۱۳۵	مَتْمِدًا
۱۱۳۶	مَتْمِدًا
۱۱۳۷	مَتْمِدًا
۱۱۳۸	مَتْمِدًا
۱۱۳۹	مَتْمِدًا
۱۱۴۰	مَتْمِدًا
۱۱۴۱	مَتْمِدًا
۱۱۴۲	مَتْمِدًا
۱۱۴۳	مَتْمِدًا
۱۱۴۴	مَتْمِدًا
۱۱۴۵	مَتْمِدًا
۱۱۴۶	مَتْمِدًا
۱۱۴۷	مَتْمِدًا
۱۱۴۸	مَتْمِدًا
۱۱۴۹	مَتْمِدًا
۱۱۵۰	مَتْمِدًا
۱۱۵۱	مَتْمِدًا
۱۱۵۲	مَتْمِدًا
۱۱۵۳	مَتْمِدًا
۱۱۵۴	مَتْمِدًا
۱۱۵۵	مَتْمِدًا
۱۱۵۶	مَتْمِدًا
۱۱۵۷	مَتْمِدًا
۱۱۵۸	مَتْمِدًا
۱۱۵۹	مَتْمِدًا
۱۱۶۰	مَتْمِدًا

سُورَةُ بِنْتِ الْعُقَابِ (۲۲)

نمبر شمار عربی اردو

حَا فِي يَدَيْكَ تَهَا
لیکن مضاف ہوئیگی
وجہ سے نہ کر گیا،
۱۱۵۵۔ سَلِّدُ الْوَقَا سَخْتِ عَذَابٍ دِينَے
والا۔
۱۱۵۶۔ اُتْمَهُرُ مَبِينَةُ
(واحد: شَهْرٌ)
۱۱۵۷۔ مَعْلُومَاتٍ معلوم، جانے ہوئے
۱۱۵۸۔ فَرَضٌ لازم کیا، فرض مقرر
۱۱۵۹۔ مُسَوِّقٌ گناہ، نافرمانی
(واحد: فُسُوقٌ)
۱۱۶۰۔ جَدَّالٌ جھگڑا کرنا
۱۱۶۱۔ تَوَدَّدُوا خرمی ساتھ لو،
زاد راہ، دفعل امر،
مادہ: نَزَدَدُ
۱۱۶۲۔ خَبِيرَاتٌ بہتر زاد (سفر)
۱۱۶۳۔ اَلْقَوِيُّ تقویٰ
۱۱۶۴۔ اَفْضَى لوثنا، پلٹنا
۱۱۶۵۔ عَرَفَاتٌ حج کے میدان کا
نام، جہاں ذوالحجہ کی

سُورَةُ لِقَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

تُوَارِخٌ تواریخ کو حجاج
کرام جمع ہوتے ہیں،
جو مکہ سے چند میل
کے فاصلے پر ہے،
۱۱۶۶۔ مَسْجِدُ الْحَاوِ مقام مزدلفہ،
جہاں عرفات سے
واپسی پر حجاج ایک
رات گزارتے ہیں،
یہاں ایک عالیشان
مسجد بھی ہے۔
۱۱۶۷۔ قَضِيَّتُمْ پورا کر چکو
۱۱۶۸۔ مَنَاسِكٌ حج کے کام، ارکان حج
(واحد: مَنَسَكٌ)
۱۱۶۹۔ اَتَيْنَا دے ہم کو
۱۱۷۰۔ قَبْرٌ بچا (ذوقی یقینی
سے فعل امر،
۱۱۷۱۔ قِنَا ہم کو بچا
۱۱۷۲۔ قَصِيْبٌ حصہ
۱۱۷۳۔ سَرِيْعٌ جلد لینے والا
النِّصْفُ

سُورَةُ مَدِيْنَةِ (۲۴)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۷۴۔ مَعَجَلٌ جلدی چلا گیا،
جلدی کی۔
عَجَلَتْ سے بنا ہے
۱۱۷۵۔ يَوْمَئِذٍ دُودُنِ (تثنیہ)
۱۱۷۶۔ تَأَخَّرَ پیچھے رہا، موخر کیا
۱۱۷۷۔ عَجِبٌ عجیب، تعجب لگنا
(ع ج ب)
۱۱۷۸۔ تَوَلَّى بات
(جمع: اَوَّلُ)
۱۱۷۹۔ اَلَّذِي اَلْحَصَا سَخْتِ جھگڑا لو
۱۱۸۰۔ تَوَلَّى حاکم ہوتا ہے،
متولی ہوتا ہے،
پیٹھ پھرتا ہے
۱۱۸۱۔ سَعَى کوشش کرے
(مصدر: سَعَى)
۱۱۸۲۔ حَرَفٌ کھیتی
۱۱۸۳۔ اَلنَّسَلُ جاندار، جانین
۱۱۸۴۔ عَرَفَتْ غلبہ، طاقت
۱۱۸۵۔ حَسَبٌ کافی
۱۱۸۶۔ مِهَادٌ بچھونا، ٹھکانا
۱۱۸۷۔ يَسْتَوِي بچیتا ہے

سُورَةُ لِقَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۸۸۔ اِبْتِغَاءٌ چاہا
(چاہنا، ڈھونڈنا،
۱۱۸۹۔ مَرْضَاتٍ رضامندی
داخل ہونا
۱۱۹۰۔ دَخَلَ
۱۱۹۱۔ اُنْتَبِهُ فربان برداری، اسلام
پورے پورے
۱۱۹۲۔ كَافَتْ
۱۱۹۳۔ سَرَّكَلٌ پھسل جانا
(دُكْمًا گانا،
۱۱۹۴۔ ظَلَّ سائبان،
سایہ کرنے والے
۱۱۹۵۔ غَمَامٌ بادل
۱۱۹۶۔ قَضَى الْأَمْرَ پورے ہوں کام،
فیصل ہو جائیں
سب کام۔
۱۱۹۷۔ اَلْحَقُّ پوچھ
۱۱۹۸۔ كُنَّا، كُنْتُمْ کتنا، کتنی
۱۱۹۹۔ زَيْنَتٌ زینت دی گئی
(دنیوی)
۱۲۰۰۔ سَخَّرَ ہنسنا، بھٹھکا کرنا
(دس خ س)

پارہ نمبر (۲۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۰۱	وَاجِدَةٌ ایک
۱۲۰۲	بَعَثَتْ بھیجنا، اٹھانا
۱۲۰۳	كَمَا كُنْتُمْ گمان کیا تم نے
۱۲۰۴	يُحْكِمُ فیصلہ کیا جاوے
	(مصدر: حَكَمَ)
	بمعنی فیصلہ کرنا)
۱۲۰۵	لَمَّا ابھی نہیں
۱۲۰۶	مَثَلٌ حالت، مثال
۱۲۰۷	مَسٌّ چھونا، گلنا
۱۲۰۸	مُرْتَابًا ہلادے گئے
	(مصدر: ذَكَرْتُكَ)
۱۲۰۹	مَتًى کب
۱۲۱۰	نَهَى اللَّهُ مدد اللہ کی
۱۲۱۱	مَاذَا کیا، کتنا
۱۲۱۲	أَقْرَبِينَ قرابت والے
۱۲۱۳	وَقَالَ لڑنا
۱۲۱۴	كُرَّةً ناپسند
۱۲۱۵	عَسَى ممکن، شاید
۱۲۱۶	خَيْرٌ بہتر
۱۲۱۷	شَرٌّ بُرّا

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۱۸	صَدُّ رُکنا، بند کرنا
۱۲۱۹	أَكْبَرُ زیادہ بڑا
۱۲۲۰	لَا يَزَالُونَ نہیں باڑائیں گے
۱۲۲۱	يُرْدُّوْا پھیریں (وہ)
۱۲۲۲	اسْتَطَاعُوا مقدر و پاویں
	(مصدر: اسْتَطَاعَتْ)
۱۲۲۳	يُؤْتِدُ پھر جاوے گا
	(مصدر: اِمْرًا تَدَا)
	بمعنی مُرْتَدِّبُونَ)
۱۲۲۴	حَبِطٌ غارت ہونا، ضلوع ہونا
۱۲۲۵	هَاجِرًا ہجرت کی
	(ح ج س)
۱۲۲۶	جَاهِدُوا جہاد کیا
	(ح ج د)
۱۲۲۷	يُرْجُونَ اُمیدوار ہیں
	(س ج و)
۱۲۲۸	خَمْرٌ شراب
۱۲۲۹	مَيْسِرٌ جو
۱۲۳۰	عَفْوٌ ضرورت سے
	زیادہ

پارہ نمبر (۲۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۳۱	تَتَفَكَّرُونَ تم دھیان کرو،
	تفکر کرو، سمجھو
۱۲۳۲	إِصْلَاحٌ سنوارنا، درست کرنا
۱۲۳۳	خَيْرٌ بہتر
۱۲۳۴	وَحَالِطُوا ملاؤم، ساتھ رکھو تم
	(مخلوط)
۱۲۳۵	مُفْسِدٌ خرابی کرنے والا
۱۲۳۶	مُصْلِحٌ سنوارنے والا،
	اصلاح کرنے والا۔
۱۲۳۷	أَعْنَتٌ مشقت میں ڈالنا
۱۲۳۸	لَا تُنكِحُوا نکاح میں مت لاؤ،
	نکاح مت کرو۔
۱۲۳۹	مُشْرِكَةٌ مشرک عورت
	(واحد: مُشْرِكَةٌ)
۱۲۴۰	أُمَّتٌ لونڈی
۱۲۴۱	أَعْجَبٌ بھلا معلوم ہوا،
	عجیب، تعجب
	(ع ج ب)
۱۲۴۲	لَا تُنكِحُوا نکاح میں نہ دو
۱۲۴۳	عَنْدٌ غلام
۱۲۴۴	يُنْعَوْنَ پکارتے ہیں

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۴۵	مَغْفِرَةٌ بخشش
۱۲۴۶	يُنذِرُونَ نصیحت حاصل کریں
	تذکرہ حاصل کرنا۔
	ح
۱۲۴۷	مَحِيضٌ حیض
۱۲۴۸	أَذًى تکلیف، ضرر، نجاست
۱۲۴۹	فَاعْتَرَلُوا پس الگ رہو
	(ع ن ل)
۱۲۵۰	نِسَاءٌ عورتیں
۱۲۵۱	يَطْهَرُونَ پاک ہو جائیں
	(ط ه س)
۱۲۵۲	تَوَابِعِينَ توبہ کرنے والے
۱۲۵۳	مُنْطَهَرِينَ ستمھرائی کرنے والے
	کھینتی
۱۲۵۴	أَنِي شَيْئًا جب تم چاہو
۱۲۵۵	قَلْمًا آگے بھیجو
۱۲۵۶	مُلَقَّوًا ملنے والے
۱۲۵۷	لَا تَجْعَلُوا مت بناؤ
۱۲۵۸	عَرْضَةً نشانہ، پتھکنڈہ، آڑ
۱۲۵۹	أَيْتَانِ قسبیں
	(واحد: اَيْتَانِ)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۲۶۱- تَبَدُّدٌ نیک سلوک
 ۱۲۶۲- لَعُوٌّ فیضوں، بے کار
 ۱۲۶۳- حَلِيمٌ جمل والا
 ۱۲۶۴- يُوْتُونَ قسم کھاتے ہیں
 مصدر: اِيلَاءٌ
 بمعنی قسم کھانا،
 ۱۲۶۵- تَرَفُّسٌ انتظار کرنا
 ۱۲۶۶- اَبْرَجِعَ اَشْبَهَ جار مجبے
 ۱۲۶۷- فَاوَأُ لوث آویں
 ۱۲۶۸- عَزَمُوا ارادہ کیا، عزم کیا
 (ع ن م)
 ۱۲۶۹- مُطَلَّقَاتٌ طلاق دی جانے
 والی عورتیں۔
 ۱۲۷۰- ثَلَاثَةٌ تین
 ۱۲۷۱- قُرُوبٌ حیض
 (واحد: قُرْبٌ)
 ۱۲۷۲- اَسْرَحَامٌ پیٹ
 شوہر
 ۱۲۷۳- بَعُولٌ (بَعْلٌ واحد)
 زیادہ حقدار
 ۱۲۷۴- اَحَقُّ زیادہ حقدار

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۲۷۵- سَرَدٌ لوطانا
 ۱۲۷۶- فِی ذَالِكَ اس مدت میں
 ۱۲۷۷- بَرِجَالٌ مرد
 (واحد: بَرَجَلٌ)
 ۱۲۷۸- طَلَّاقٌ طلاق دینا
 ۱۲۷۹- مَرَّتَانِ دو مرتبہ
 ۱۲۸۰- اِمْسَاكٌ روکنا تھام لینا
 ۱۲۸۱- مَعْرُوفٌ بھلا اچھا بہتر ٹھیک
 ۱۲۸۲- تَسْبِيحٌ زخمت کرنا
 ۱۲۸۳- اِحْسَانٌ اچھی طرح، احسان
 کے ساتھ، نیک
 سلوک کے ساتھ
 ۱۲۸۴- لَا يَحِلُّ نہیں حلال ہے
 کہ نہیں
 ۱۲۸۵- اَنَّ، لَاحِ
 قائم رکھیں گے وہ
 دفتوں،
 (مصدر: اِقَامَتٌ)
 ۱۲۸۷- حُدُّوْا اللّٰہِ حدیں اللہ کی
 ۱۲۸۸- جَنَاحٌ گناہ

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۲۸۹- يَتَعَدَّ حد سے گزر جائے
 (تَعَدَّى، يَتَعَدَّى)
 ۱۲۹۰- عَدُوٌّ سوائے اس کے
 ۱۲۹۱- يَتَوَاجَعُ پھرا آئیں، لوط
 آئیں وہ دونوں
 ۱۲۹۲- بَلَعْنَ پیچھے (موتنٹ)
 ۱۲۹۳- اَجَلٌ وقت، مدت
 ۱۲۹۴- اَمْسِكُوْا روک رکھو، رہنے دو
 ۱۲۹۵- سَبَّحُوا زخمت کر دو
 ۱۲۹۶- ضَمُّوا ایدنا
 ۱۲۹۷- يَعْظُوْا نصیحت کرتا ہے
 (مصدر: وَعْظٌ)
 (د ع ظ)
 الثلاثہ
 ۱۲۹۸- لَا تَعْصُوْا مت روکو
 (د ع ض ل)
 ۱۲۹۹- اَسْرَى زیادہ پاکیزہ
 ۱۳۰۰- اَطَهَرَ بہت پاک
 نہایت ستھرا
 ۱۳۰۱- وَاٰلِ اٰتٍ مائیں
 (واحد: وَاٰلٌ اٰتٍ)
 ۱۳۰۲- يَرْضَعْنَ دودھ پلاویں
 (ر ض ع)
 ۱۳۰۳- حَوٰلَيْنِ ڈوبیں
 ۱۳۰۴- كَامِلَيْنِ پورے مکمل ڈو
 ۱۳۰۵- اَلرَّضَاعَةَ دودھ پلانا (مصدر)
 ۱۳۰۶- مَوْلُوْدٍ بچہ
 ۱۳۰۷- مَوْلُوْدٌ بچہ والا، لڑکے والا
 ۱۳۰۸- مَرِيْتٌ کھانا
 ۱۳۰۹- كِسُوَةٌ پہناوا
 ۱۳۱۰- لَا تُكَلِّفُ نہیں تکلیف دی
 جاتی، مکلف نہیں
 بنایا گیا۔
 نہیں پابندی جاتی،
 ۱۳۱۱- وُسْعَهَا اس کی وسعت،
 طاقت۔
 ۱۳۱۲- لَا تُضَيِّرُنَّ ضرر پہنچایا جائے
 ۱۳۱۳- وَاٰلِ اٰتٍ ماں
 ۱۳۱۴- وَلَدٌ لڑکا
 ۱۳۱۵- هُنَّ ذَالِكَ اسی طرح

پارہ نمبر ۲۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۱۶- فِضَالًا دودھ چھڑانا
 ۱۳۱۷- تَشَاؤُنُ مشورہ
 ۱۳۱۸- تَسَدَّرَ ضِعْوًا دودھ پلواؤ تم، رضاعت
 ۱۳۱۹- سَلَّيْتُمْ پورا دے حکومت
 ۱۳۲۰- يَلْوُونَ وفات پاتے ہیں
 ۱۳۲۱- يَنْزُونَ چھوڑ جاتے ہیں
 ۱۳۲۲- اَرْبَعَةٌ چار
 ۱۳۲۳- عَشْرٌ دس
 ۱۳۲۴- عَرَضْتُمْ تم نے اشارے میں کہا، پیش کیا
 ۱۳۲۵- خُطِبَتِ النِّسَاءُ منگنی عورتوں کی، بات چیت
 ۱۳۲۶- اَلْتُمْتُمْ چھپاؤ تم
 ۱۳۲۷- رِيًّا چھپا، پوشیدہ (راز)
 ۱۳۲۸- عَزَمْتُ ارادہ کرنا، عزم کرنا
 ۱۳۲۹- عَقَدْتُ الْكَيْحَ گمہ باندھنا کالج کی پکی کرنا
 ۱۳۳۰- حَنَرَ طرنا، بچھا، خیر دار رہنا
 ۱۳۳۱- مَسَّ پھوننا، ہاتھ لگانا

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۳۲- فَرِيضَةً مقرر کرنا
 ۱۳۳۳- مَوْسِعٌ وسعت والا
 ۱۳۳۴- مَقْتَدِرٌ تنگ دست
 ۱۳۳۵- نَضْفٌ آدھا
 ۱۳۳۶- عَقْوٌ درگزر کرنا
 ۱۳۳۷- اقْرَبُ زیادہ قریب ہے
 ۱۳۳۸- تَقْوَى پرہیزگاری
 ۱۳۳۹- لَا تَلْسُوا مت بھولو (دن سی)
 ۱۳۴۰- فَضِّلٌ بھلائی
 ۱۳۴۱- حَافِظُونَ حفاظت رکھو (ح ف ظ)
 ۱۳۴۲- صَلَوَاتٍ نمازیں (واحد: صَلَوَةٌ)
 ۱۳۴۳- صَلَوَةٌ اَوْ سَلَامٌ سچ کی نماز
 ۱۳۴۴- قَوْمٌ کھڑے ہو جاؤ
 ۱۳۴۵- قَانِتِينَ باادب
 ۱۳۴۶- سَرَجًا پیاوہ، پیدل
 ۱۳۴۷- سُرْحَابًا سوار
 ۱۳۴۸- مَنَاحًا فائدہ، سامان
 ۱۳۴۹- اَلْحَوْلُ ایک سال

پارہ نمبر ۲۸

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۵۰- عَزَّوَجَلَّ اُج نہ نکالا جاتے، بے نکالے
 ۱۳۵۱- اَلْمَتْرُ كیا نہیں دیکھا تو نے
 ۱۳۵۲- اَلْوَفُّ ہزاروں (دالف واحد ہے)
 ۱۳۵۳- حَذَّ الوَتِّ ڈرموت کا
 ۱۳۵۴- مَوْتُونَ مر جاؤ
 ۱۳۵۵- مَنْ ذَا الَّذِي کون شخص ہے جو (م د ت)
 ۱۳۵۶- يُعْرِضُ قرض دے گا
 ۱۳۵۷- اَصْعَقًا دگنا (واحد: ضَعْفٌ)
 ۱۳۵۸- كَثِيرٌ بہت
 ۱۳۵۹- قَبِيضٌ تنگی کرنا، کمی کرنا
 ۱۳۶۰- كَبِطٌ کشادہ کرنا، پھیلا نا
 ۱۳۶۱- مَلَأٌ سردار
 ۱۳۶۲- اِنْبَعَثَ مقرر کر، کھر، اگر
 ۱۳۶۳- مَلِكًا بادشاہ
 ۱۳۶۴- هَلْ کیا

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۶۵- اَحْسَيْنَا تم نزدیک ہو
 ۱۳۶۶- اِنْ اکر
 ۱۳۶۷- اَلَا کہ نہیں (دان لاکا مر ہے)
 ۱۳۶۸- وَمَا لَنَا کیوں نہیں ہم کو
 ۱۳۶۹- قَدْ تحقیق
 ۱۳۷۰- اَخْرَجْنَا نکالے گئے ہم
 ۱۳۷۱- اَبْنَاءُ بیٹے
 ۱۳۷۲- تَوَلَّوْا پھر گئے وہ
 ۱۳۷۳- بَعَثَ مقرر کیا
 ۱۳۷۴- طَائِفَاتٍ ایک ٹوں سردار کا نام جو حضرت داؤد اور شموئیل کے زمانے میں گزریں، باوجود غریب ہونیکے اللہ تعالیٰ نے انھیں تدریس علم اور جہانی طاقت اور فن جنگ سے نوازا تھا، اسی لئے انھیں بنی اسرائیل کا سردار مقرر کیا گیا۔

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	اردو
۱۳۷۵- اُنَىٰ	کہاں، کس طرح	
۱۳۷۶- يَكُوْنُ	ہوگا	
۱۳۷۷- يُوْتَتْ	دیا گیا	
۱۳۷۸- سَعَةً	گشادگی، وسعت	
۱۳۷۹- اِصْطَفَىٰ	پسند کیا، منتخب کیا	
۱۳۸۰- زَادَ	زیادہ کیا	
۱۳۸۱- بَسَطَتْ	پھیلاؤ، گشادگی	
۱۳۸۲- تَابُوْتْ	ایک صندوق، جس میں حضرت موسیٰ کا عصا، عمامہ اور تورات کی تختیاں تھیں۔	
۱۳۸۳- سَكِيْنَةً	تسکین، آرام	
۱۳۸۴- بَقِيَّةً	باقی	
۱۳۸۵- تَحَوَّلَ	تھوڑا	
۱۳۸۶- اُتْهَلَّتْ	اُٹھائے ہوئے	
۱۳۸۷- مَلَاؤِكَةٌ	فرشتے	
۱۳۸۸- فَضَلْ	چلا، جدا ہوا، باہر ہوا	
۱۳۸۹- جُنُوْدٌ	لشکر	
۱۳۹۰- مُبْتَلِيكُمْ	آزمائو، الایہ تم کو	

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	اردو
۱۳۹۱- مُبْتَلِي	آزمائے والا	
۱۳۹۲- نَهْرٌ	ندی، نہر	
۱۳۹۳- شَرِبَ	پینا	
۱۳۹۴- لَيْسَ	نہیں ہے	
۱۳۹۵- طَعْمٌ	چکھنا، کھانا	
۱۳۹۶- عَرَفَتْ	جلو بھر	
۱۳۹۷- يَدٌ	ہاتھ	
۱۳۹۸- شَرِيْبُوْ	جمع: ایتلی، پیا آنھوں نے	
۱۳۹۹- جَاوَرْنَا	پارا تیرا	
۱۴۰۰- جَاوَرْنَا	ایک ظالم اور شرک بادشاہ، جسکو حضرت داؤد نے قتل کیا۔	
۱۴۰۱- اَنْهَمُ	کودہ	
۱۴۰۲- مَلْفُوْا	ملنے والے	
۱۴۰۳- كَمْ	کتنے	
۱۴۰۴- قَلِيْلَةٌ	تھوڑے، تھوڑی	
۱۴۰۵- غَلَبَ	غالب آنا	
۱۴۰۶- فِدْمَةٌ	ٹولی، گروہ، جماعت	

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	اردو
۱۴۰۷- يَوْمَ نُنزِلُ	ظاہر ہوتے، نکلے	
۱۴۰۸- اَفْرَغْ	ڈال دے	
۱۴۰۹- ثَلِيْثٌ	ثابت رکھ	
۱۴۱۰- اَقْدَامٌ	قدم (واحد: قَدَمٌ)	
۱۴۱۱- نَصَوِيْ	مدد دینا	
۱۴۱۲- هَزَمٌ	شکست دینا	
۱۴۱۳- دَفَعٌ	دفع کرنا، ٹاننا، دُور کرنا، ہٹانا	
۱۴۱۴- فَسَدَتْ	فساد سے بھرتی ہو	
۱۴۱۵- اَرْضٌ	زمین	
۱۴۱۶- ذُوْ فَضْلٍ	فضل والا، صاحب فضل	
۱۴۱۷- يَلْدَكَ	یہ	
۱۴۱۸- اِنَّكَ	داصل معنی: وہ	
۱۴۱۹- لِيُوْنِ	بے شک تو	
۱۴۲۰- مُؤَسِّلِيْنَ	البتہ سے رسول	
	(واحد: مُرْسَلٌ)	

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	اردو
۱۴۲۱- مَرْسَلٌ	رسول کی جمع	
۱۴۲۲- كَلِمًا	کلام کیا	
۱۴۲۳- اَيُّدِنَا	تائید دینی ہم نے، سکی	
۱۴۲۴- رُوْحَ الْقُدُسِ	روح پاک یعنی حضرت جبریل علیہ السلام	
۱۴۲۵- اِقْتَنَلْ	لڑنا، چھلڑنا	
۱۴۲۶- يَفْعَلْ	کرتا ہے	
۱۴۲۷- يُوْنِدْ	ارادہ کرتا ہے	
۱۴۲۸- اَنْفِقُوْا	خرچ کرو	
۱۴۲۹- بَيْعٌ	بیچنا، تجارت	
۱۴۳۰- حُلَّةٌ	دوستی	
۱۴۳۱- شِفَاعَةٌ	شفاعت، سفارش	
۱۴۳۲- اَنْحَىٰ	زندہ	

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۱۳۳۳- قیوم	۱۳۵۰- طاعون، سرکش، ہر وہ چیز
والا، بذات خود قائم	جو قدر کے مقابل ہو
۱۳۳۴- سنۃ	۱۳۵۱- استمنسک پکڑ رکھا
ادب	۱۳۵۲- عزوۃ "کڑا دستہ"
۱۳۳۵- نوم	۱۳۵۳- وثقی مضبوط، بہت مضبوط
نیند	۱۳۵۴- لانقصام نہیں لوٹنا
۱۳۳۶- من ذَا	۱۳۵۵- دوی دوست
کون ہے	(جمع: اذلیاء)
۱۳۳۷- الذی	۱۳۵۶- ظلمات اندھاری
جو شخص	۱۳۵۷- دوشی
(اسم موصول)	(جمع: اذلیاء)
۱۳۳۸- اذن	۱۳۵۸- حاجت
اجازت، حکم	۱۳۵۹- یحیی زندہ کرتا ہے
۱۳۳۹- بین	۱۳۶۰- یبیت مارتا ہے
درمیان	۱۳۶۱- انا میں
۱۳۴۰- بین ایک بہر درمیان، آگے نکلے	۱۳۶۲- شمس سورج
۱۳۴۱- لایحیون نہیں کھیر سکتے	۱۳۶۳- بہت
(مصدر: احاطۃ)	۱۳۶۴- انا کسی
۱۳۴۲- کرسی	۱۳۶۵- تھکانا
۱۳۴۳- اود	۱۳۶۶- نہیں تھکا سکے
تھکانا	۱۳۶۷- بلند، اعلیٰ
۱۳۴۴- لاؤد	۱۳۶۸- زبردستی
۱۳۴۵- علی	۱۳۶۹- دین اسلام
۱۳۴۶- اکی	۱۳۷۰- ظاہر ہو گئی
۱۳۴۷- اذ	۱۳۷۱- تیار ہو گئی
۱۳۴۸- تبین	۱۳۷۲- کرسی، بناوٹ، نافرمانی
۱۳۴۹- غی	

پارہ نمبر (۲۱)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۱۳۴۴- موز	۱۳۷۳- گزرنا
(مصدر: مؤود)	۱۳۷۴- قریۃ "بستی، گاؤں"
۱۳۴۵- لحمًا	(جمع: قری)
گوشت	۱۳۷۵- ہی
۱۳۴۶- ابرانی	۱۳۷۶- خاویۃ "گری ہوئی"
دکھا مجھے	۱۳۷۷- عروشن "چھتریاں، چھتیاں"
۱۳۴۷- اؤکم	۱۳۷۸- ہذہ اس کو
کیا نہیں	۱۳۷۹- امات موت دی
۱۳۴۸- یطہین	۱۳۸۰- ماۃ ایک سو
اطمینان پکڑے	۱۳۸۱- عام برس
۱۳۴۹- قلبی	۱۳۸۲- لبت رباتو
میرا دل	۱۳۸۳- طعام کھانا، کھانے کی چیز
د قلب: واحد	۱۳۸۴- شواب پینا پینے کی چیز
قلوب: جمع	۱۳۸۵- لو یسنہ نہیں سڑا
۱۳۹۰- حن	۱۳۸۶- انظر دیکھ
لے، پکڑ لے	۱۳۸۷- حمار گدھا
۱۳۹۱- امر بعة	۱۳۸۸- عظام ہڈیاں
چار	۱۳۸۹- کیف کیسے
۱۳۹۲- طیر	۱۳۹۰- ہم چڑھاتے ہیں
پرند، اڑتا جانور	(ن ش ن)
(جمع: طیور)	
۱۳۹۳- صر	
مانوس کر پال لے	
صورت پہچان لے	
۱۳۹۴- جبل	
پہاڑ	
(جمع: جبال)	
۱۳۹۵- جزع	
حصہ، ٹکڑا	
۱۳۹۶- سعیا	
دوڑ کر	
۱۳۹۷- حبه	
دانہ	
۱۳۹۸- انبت	
اگائی	

پارۃ سب

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۴۹۹- سَبَّحَ سَائِحٌ
 ۱۵۰۰- سَنَابِلٌ بَالِيَا (سُنْبُلَةٌ)
 (واحد بالی)
 ۱۵۰۱- يُضَاعَفُ بَطْهَاتَا سَبَّ
 (مصدر: مُضَاعَفَةٌ)
 ۱۵۰۲- يَنْفَقُونَ خَرِجَ كَرْتَيْ سَبَّ
 (مصدر: انْفَاقٌ)
 ۱۵۰۳- اَمْوَالٌ مَالٌ رَجَعٌ
 ۱۵۰۴- لَا يَبْتَغُونَ نَهَيْ سَبَّ لَاتَيْ
 (اِتِّبَاعٌ بَيْحٌ لَانَا)
 ۱۵۰۵- مَنَّا اِحْسَانٌ
 ۱۵۰۶- اِذِي سَتَانَا تَكْلِيْفٌ
 اذیت۔
 ۱۵۰۷- قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بَاتٍ مَعْقُولٌ
 ۱۵۰۸- مَعْقُوفَةٌ وِرْكَرٌ
 ۱۵۰۹- صَدَقَتْ خَيْرَاتٌ
 ۱۵۱۰- غَنِيٌّ غَنِيٌّ
 ۱۵۱۱- حَلِيمٌ تَحَلَّى وَالَا
 ۱۵۱۲- لَا تَبْطُلُوا مَتَّ بَاطِلٌ كَرُو
 ۱۵۱۳- اَلْكَذِبِيُّ مَانِدَا سَخِضٌ كَيْ

سورة لقمر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۵۱۴- سَرَ عَاءٌ دَكْهَلَانَا رِبَا كَرْنَا
 ۱۵۱۵- صَفْوَانٌ صِيَا فِجْنَا بِمَهْرٌ
 ۱۵۱۶- تَرَابٌ مَسِيٌّ
 ۱۵۱۷- اَصَابَ طَرِيٌّ بَرِيٌّ
 ۱۵۱۸- وَاِبِلٌ بَارِشٌ زَوْرِكِي
 ۱۵۱۹- صَلْدَا جَلْنَا صَا فِ سَخْتِ
 ۱۵۲۰- لَا يَقْدِرُونَ اِقْتِيَارَ نَهَيْ سَبَّ لَاتَيْ
 اُنْ كَيْ مَاتَهَيْ سَبَّ لَاتَيْ
 ۱۵۲۱- اِتِّبَاعٌ جَاهِنَا دَهْوَنَانَا
 تَلَا شَ كَرْنَا۔
 ۱۵۲۲- مَوْصَاتِ اللّٰهِ رِضَا مَنْدَرِي
 خَوْ سِي اللّٰهِ كِي۔
 ۱۵۲۳- تَبِيَّتَا جِمَانَا مَضِيوُطٌ
 تَابِتٌ
 ۱۵۲۴- جَنَّةٌ بَارِعٌ
 (رَجْعٌ: جَنَاتٌ)
 ۱۵۲۵- سَرَابُوتَةٌ بَلَنْدِي، بَلَنْدَجَكْ
 ۱۵۲۶- اُكُلٌ مِيوَه، پَهْل
 ۱۵۲۷- ضِعْفَيْنِ دَوَكْنَا
 ۱۵۲۸- طَلٌّ شَبْنَم، پَهْوَار

پارۃ سب

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۵۲۹- وَدَّ جَاهِنَا
 ۱۵۳۰- اَحَدُكُمْ كَوْنِي تَهَارَا،
 كَوْنِي تَمَّ مِيں
 ۱۵۳۱- فَخَيْلٌ كَهْجُورٌ
 ۱۵۳۲- اَعْتَابٌ اَنُكُورٌ
 (واحد: عَنَبٌ)
 ۱۵۳۳- كَبْرٌ بُرْهَاطَا
 ۱۵۳۴- ذُرِّيَّةٌ اَوْلَادٌ
 ۱۵۳۵- ضِعْفَاءٌ ضَعِيْفٌ كَمَزُورٌ
 (رَجْعٌ سَبَّ ضَعِيْفٌ كِي)
 ۱۵۳۶- اَعْصَابٌ بَكُوْلَةٌ
 ۱۵۳۷- اِحْتَوَتْ جَلَّ اَطْحَا، جَلَّ كِيَا
 (رَجْعٌ: رِقٌ)
 ۱۵۳۸- تَفَكَّرُوا نَفَكَّرُوا كَرُوْمٌ
 ۱۵۳۹- طَبِيَّتٌ يَاكُ جِيْمِيں
 ۱۵۴۰- لَا تَبْتَلُوا مَتَّ نَيْتِ كَرُو،
 مَتَّ قَصْدِ كَرُو
 ۱۵۴۱- خَبِيْتٌ نَابَاكٌ مَشِيٌّ، كَنْدِي
 ۱۵۴۲- لَسْتُ نَهَيْ سَبَّ لَاتَيْ
 ۱۵۴۳- اِحْتَرِي لَيْسَ وَالَسِي

سورة لقمر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۵۴۴- نَعِيْضُوا اَنَكْهُ مَوْنِدَلُو
 ۱۵۴۵- عَنِيْضٌ اَنَكْهُ مَوْنِدَلِيْنَا،
 چِشْمِ پُو شِي كَرْنَا۔
 ۱۵۴۶- حَبِيْبٌ خُوْبِيُوں وَالَا
 ۱۵۴۷- فَقرٌ تَنَكِيٌّ
 ۱۵۴۸- فَحْشَاءٌ بِي حِيَانِيٌّ
 ۱۵۴۹- يُوْرَتِي دِي تَا سَبَّ
 ۱۵۵۰- حَكِيْمَةٌ سَبَّ
 ۱۵۵۱- يَنْ كَرُو نَهِيْمَتِ قَوْلِ كَر تَا سَبَّ
 ۱۵۵۲- نَفَقَةٌ خَيْرَاتٌ، لَاهُ خَدَا
 مِيں خَرَجَ كَرْنَا
 ۱۵۵۳- نَدْرَتْ نَدْرَمَانِي تَمَّ نِي يَا
 مَنَّتْ مَانِي
 ۱۵۵۴- اِنْ اَكْرٌ
 ۱۵۵۵- تَبَدُّوا ظَا هِرْ كَرُو
 (دَبْدُو)
 ۱۵۵۶- نَعِيْمًا اَطْحَا
 ۱۵۵۷- فَقرٌ حَاجَتِ مَنْدِ
 ۱۵۵۸- يَكْفُرٌ دُوْرُ كَر دَسِي كَا
 ۱۵۵۹- سَيِّئَاتٌ بُرَا تِيَاں
 دَسِيْمَتَةٌ بُرَا تِيَاں

پارہ نمبر ۳

نمبر شمار عربی اُردو

۱۵۶۰۔ لَيْسَ نہیں ہے
۱۵۶۱۔ لَكِنْ لیکن
۱۵۶۲۔ وَجْهَ اللَّهِ رضامندی اللہ کی
۱۵۶۳۔ يَوْمَ پورا دیا جائے گا
۱۵۶۴۔ اُخْصَوْ ذَا رُوكَ لَمْ يَكُنْ بَدْرُكَ كُنْ

(ح ص س)

۱۵۶۵۔ ضَرَبْنَا چلنا
۱۵۶۶۔ يَحْسَبُ گمان کرتا ہے
(ح س ب)
۱۵۶۷۔ اَعْدِيَاءَ دولت مند
(د واحد: عَدِيٌّ)
۱۵۶۸۔ تَعَفُّدٌ بے سوالی، سوال سے بچنا، خودداری
۱۵۶۹۔ تَعْرِفُ پہچانتا ہے

(ع س ف)

۱۵۷۰۔ سَيِّمًا علامت، نشانی
۱۵۷۱۔ اِلْحَافًا لِيُطْرَقَ اَلرُّبْعُ

۲۷
ع

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۱۵۷۲۔ بِئْسَ اِسْمًا چھپے
۱۵۷۳۔ عَلَانِيَةً ظاہر، علانیہ
۱۵۷۴۔ اَلرَّسُولُ سُوْدُ
۱۵۷۵۔ لَا يَقُوْمُوْنَ نَهْمِ كَهْرُطِ هُوْنِ
۱۵۷۶۔ كَمَا جِيسِ
۱۵۷۷۔ يَتَخَيَّطُ بِاَدْلَاكِرِيَا، خبلی کر دیا۔
۱۵۷۸۔ مَسَّ چھونا، پسٹ جانا
۱۵۷۹۔ بَيَّعَ لِيْنِ دِيْنِ، تِجَارَتِ
۱۵۸۰۔ جَاءَ آيا
۱۵۸۱۔ مَوْعِظَةً نَصِيحَتِ
۱۵۸۲۔ اِنْتَهَى باز رہا
۱۵۸۳۔ سَلَفٌ پہلے ہو چکا،
ہو کرنا
۱۵۸۴۔ عَادَ پھر کرنا
(مصدر: عَوَدٌ)
۱۵۸۵۔ مَحَقٌّ مٹانا
۱۵۸۶۔ يُوْرِي بڑھاتا ہے
۱۵۸۷۔ كَفَّاسٌ ناشکرا، کھر کرنا والا
(د واحد: كَافِرٌ)
۱۵۸۸۔ اُنْزِمَ گنہگار

پارہ نمبر ۳

نمبر شمار عربی اُردو

۱۵۸۹۔ ذُرِّيًّا چھوڑ دو
۱۵۹۰۔ بَقِيٌّ باقی رہا ہو
۱۵۹۱۔ مُؤْمِنِيْنَ ايمان لائے والے
۱۵۹۲۔ فَادُّوْا اِيسَ نَجْرًا هُوَ جَادٌ اعلان سن لو
(اذن)
۱۵۹۳۔ حَرِيْبٌ لڑائی
۱۵۹۴۔ اِنِيْ اگر۔ اِن کے بعد
اگر الا کا لفظ آئے
تو معنی انہیں کے ہونگے
جیسا کہ لفظ نمبر ۵۹۲
پہلے پارہ میں دَانٌ
هُمَا اَلَا يَظُنُّوْنَ
كُوْنُ عِ سُوْرَةِ بَقْرَةَ
۱۵۹۵۔ تَبَيَّنَتْ تو بیکر و تم
۱۵۹۶۔ مَرَّةً وَاَوْسَ اَصْلُ
۱۵۹۷۔ ذُوُّ وَالَا
۱۵۹۸۔ عَسْرًا تَسْكِي
۱۵۹۹۔ نَظْرًا مہلت، انتظار
۱۶۰۰۔ مَيْسِرًا فِرَاعَتِ، آسانی
۱۶۰۱۔ اُنْ كِ

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۱۶۰۲۔ تَصَدَّقُوا تم صدقہ کرو
۱۶۰۳۔ تُرْجَعُوْنَ تم لوٹائے جاؤ گے
۱۶۰۴۔ تُؤْفَى پورا دیا جائے گا
۱۶۰۵۔ تَنْ اِيْنِ قَرْضِ كَمَا مَعَالِكِرِنَا
۱۶۰۶۔ ذِيْنِ قَرْضِ، اُدھار
۱۶۰۷۔ اَجَلٌ مُّسَمًّى وقت مقرر
۱۶۰۸۔ وَكَيْلُكُمْ اور چاہیے کہ لکھے
۱۶۰۹۔ كَاتِبٌ لکھنے والا
۱۶۱۰۔ عَدْلٌ انصاف
۱۶۱۱۔ لَدَا يَابِ اِنكار نہ کرے
۱۶۱۲۔ يُمْلَلُ لکھا دے،
املا کرادے
۱۶۱۳۔ يَبْعَسُ کم کرنا
۱۶۱۴۔ سَفِيْهًا بے وقوف
۱۶۱۵۔ ضَعِيْفًا ناتواں، کمزور،
ضعیف
۱۶۱۶۔ ذِيْ وارش، والی
۱۶۱۷۔ اِسْتَشْهَدُ اَشْهَادًا كَرُوْا كَرُوْا كَرُوْا
۱۶۱۸۔ مَهِيْلِيْنَ دَوَا هِ (تشتیہ)
۱۶۱۹۔ سِرْبَالٌ مرد (د واحد: سِرْبَالٌ)

پارہ نمبر ۳۰

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۴۲۰- اَمْرًا تَنْبِي دُور تیں
 ۱۴۲۱- تَرْضَوْنَ تم پسند کرتے ہو
 ۱۴۲۲- شَهْدَاءِ گواہ
 ۱۴۲۳- تَضَلُّ جھول جائے
 ۱۴۲۴- اِحْدَاهُمَا ایک اُن دونوں
 میں سے
 ۱۴۲۵- تَذَكَّرْ یاد دلاتے
 ۱۴۲۶- اُخْرَى دوسری
 ۱۴۲۷- اِذَا مَا دُعُوا جب بلکارے جائیں
 بلانے جائیں
 ۱۴۲۸- لَا تَسْمَعُوا مت کاہلی کرو
 ۱۴۲۹- سَامِعٌ سستی کرنا،
 کاہلی کرنا، اکتانا
 ۱۴۳۰- صَغِيرًا چھوٹا
 ۱۴۳۱- كَبِيرًا بڑا
 ۱۴۳۲- اَقْسَطُ بہت انصاف،
 اچھا انصاف
 ۱۴۳۳- اَقْوَمُ بہت درست،
 بہت سیدھا
 ۱۴۳۴- شَهَادَةٌ گواہی
 ۱۴۳۵- اَذْنًا بہت نزدیک

سورۃ لقہ (۳۰)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۴۳۶- لَا تَكْفُرُوا نہ شک کرو
 (در رُؤْب: شک)
 ۱۴۳۷- خَافِيَةً با تھوں با تھ،
 جاہز میں
 ۱۴۳۸- تَنْبِيْزُونَ تم بھیر بدل کرتے ہو
 (دوسرا)
 ۱۴۳۹- لَا يُضَارُّ نہ ضرر پہنچایا جائے
 (ض سر)
 ۱۴۴۰- فُسُوْقٌ گنہ گاری
 ۱۴۴۱- يُعَلِّمُ سکھاتا ہے
 ۱۴۴۲- رَاهِنٌ گروی رکھنا،
 رہن رکھنا
 ۱۴۴۳- مَقْبُوْصَةٌ قبض میں دی ہوئی
 اعتبار کرنا، امین جاننا
 ۱۴۴۵- يُوَدُّ ادا کرنے
 ۱۴۴۶- اَنْتُمْ گنہ گار
 (ح س ب)
 ۱۴۴۹- سَمِعْنَا سنا ہم نے

پارہ نمبر ۳۰

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۴۵۰- اَطَعْنَا مانا ہم نے
 ۱۴۵۱- عَفُوْا اَنْكَ تیری مغفرت درگا ہے
 ۱۴۵۲- مَصِيْرٌ کوٹنا
 ۱۴۵۳- لَا يَكْلِفُ نہیں تکلیف دیتا
 (ك ل ف)
 ۱۴۵۴- نَسَبْنَا ہم بھول گئے
 ۱۴۵۵- اَخْطَاْنَا ہم سے چوک ہو جائے
 ۱۴۵۶- دَاعَفٌ اور درگزر کر
 ۱۴۵۷- مَوْلَانَا دوست ہمارا
 بچ

ال عمران سورہ

- ۱۴۵۸- نَزَّلَ اُنزارا
 ۱۴۵۹- مَصَدِّقًا تصدیق کرنیوالی
 ۱۴۶۰- لِيُنْزِلَ اِسْ کے پہلے
 ۱۴۶۱- ذَوَاتِ شِقَاہِ انتقام لینے والا
 ۱۴۶۲- لَا يَخْفَى نہیں چھپی
 ۱۴۶۳- يَصُوْرٌ صورت بنانا ہے،

سورۃ آل عمران (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- تصویر دس دن
 ۱۴۶۴- اَمْرًا حَامٍ پیرٹ کا وہ حصہ،
 جہاں پر شکر مامور
 میں رہتا ہے
 ۱۴۶۵- كَيْفٌ جیسے، کیسے بھی
 ۱۴۶۶- مُحْكَمَاتٌ صاف معنی، محکم،
 پختی، مضبوط
 ۱۴۶۷- اَمْرًا الْكِتَابِ جڑ کتاب کی
 مراد اصل کتاب
 ۱۴۶۸- اُخْرَى دوسری
 ۱۴۶۹- مَسْتَهْفَاتٌ ملتی جلتی
 کسی اُن دیکھی چیز کو
 کم علم شخص کو سمجھانے
 کے لئے اسکی سمجھ میں
 آنے والے اور مشاہدہ
 کے الفاظ کو استعمال
 کر کے ایسی بات
 سمجھانا جو اُس نے
 نہ دیکھی ہو، یا مثال
 کے ذریعے سے پوشیدہ
 اور غیبی چیزوں کے

پارہ نمبر ۲۳

اردو

مفہوم کو قریب بوجھانے کے لئے ایسے الفاظ جو باہم ملتے جلتے ہوں استعمال کر کے سمجھانا۔ ایسی آیات جو متشابہات ہوں ان کا حقیقی مفہوم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہاں انسان کو اس کا ہلکا سا تصور دلانے کے لئے اور مفہوم کے قریب بوجھانے کے لئے ان آیات سے مدد ملتی ہے۔ باقی تاویل کے لئے دُور دھوپ کرنے کیلئے خود ان مقامات پر منع کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کرسی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اقتدار اور قدرت کے اندازے کے قریب بوجھانے کیلئے استعمال فرمایا گیا ہے۔ اب یہ آیات ہم محو معنی میں نہیں لے سکتے یعنی ہمارے تصور میں کرتی کا ایک امکانی خاکہ اور تصور جو ہے، وہ نہیں لیں گے۔ بلکہ حقیقت سے قریب ہونے کے لئے اس طاقت کا ایک تصور پاسکیں گے، جو ناقص ضرور

پارہ نمبر ۲۳

نمبر شمار عربی اردو

ہوگا، لیکن حقیقت سے قریب حاصل کرنا ذرا بیزین جائیگا اس طرح لفظ: شَدِيدُ الْعِقَابِ سَجِي قِيَوْمَهُ يَوْمَ يَدْعُ مَسْتَوْطِنَاتٍ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وغيرہ پڑھائیں چاہنا، ڈھونڈنا قتنہ خلاصہ کرنا، تعبیر کرنا نتیجہ نکالنا ۱۶۴۴۔ سَرَابٍ مِثْلُ حُورٍ مُّضْمَرٍ ۱۶۴۵۔ لَا تَرَوْنَ مَتَّ طَيْرًا كَرْنَا دَرْسِي غ دے، عنایت کر ۱۶۴۶۔ هَبْ ۱۶۴۷۔ جَوْنٌ لَكَ نَكَ تَسِي رَاسٍ س ۱۶۴۸۔ دَهَابٌ ۱۶۴۸۔ كَاهَانٌ ۱۶۴۹۔ جَامِعٌ ۱۶۴۹۔ اِكْتَهَا كَرْنَا وَالَا، جمع کرنے والا۔

پارہ نمبر ۲۳

نمبر شمار عربی اردو

۱۶۸۔ مِيعَادٌ وَعَلَهُ عَج ۱۶۸۱۔ وَكُوْدٌ اِيْنَدِهِن ۱۶۸۲۔ لَفْ مِثْلٌ، جِيسِهْ كِه ۱۶۸۳۔ دَا بِيْ عَادَتٌ، وَسْتَوْرٌ، طَرِيْقَه ۱۶۸۴۔ دُوْبِيْ كِتَاه ۱۶۸۵۔ شَدِيدٌ سَحْت ۱۶۸۶۔ عِقَابٌ عَذَابُ كَرْنَا وَالَا ۱۶۸۷۔ تَغْلِبُوْنَ تَم مَغْلُوْبٌ كِتَا جَاوْنَكِه ۱۶۸۸۔ مِهَادٌ طَهْكَا نَا، بَجْهَوْنَا ۱۶۸۹۔ فَنَسِيْنَ دُو جَمَاعِيْنِ دَفِنْتُهُ اِيْكُ كَرُوْهٌ، لُوْلِيْ ۱۶۹۰۔ اِلْتَقَانَا بَلِيْ وَه دُوْنُوْ ۱۶۹۱۔ تَقَارُّنٌ لِرْطَانِيْ كَرْتِيْ تَحِيْ دَل قِي سِي ۱۶۹۲۔ اُخْرِيْ دُو سَرِي ۱۶۹۳۔ كَا فِرْعَوْنُ كَا فِرْه ۱۶۹۴۔ يَوْمٌ دِيْجِيْ تَحِيْ

نمبر شمار عربی اردو ۱۶۹۵۔ مِثْلِيْهِمْ دُو بَرَابَرٌ، دُو كَمِيْ اِيْنِيْ سِي دِيْ كِهْنَا ۱۶۹۷۔ عَيْنٌ اَنْكُهْ، نَظْرٌ ۱۶۹۸۔ يَوْمَ يَدْعُ تَا بِيْ كَرْتَا بِيْ ۱۶۹۹۔ نَصْرٌ مَدَد ۱۷۰۰۔ عِبْرَةٌ نَهِيْمَتٌ، عِبْرَتٌ ۱۷۰۱۔ اُدِيْ دَالِي ۱۷۰۲۔ اَبْصَارٌ اَنْكُهْ (دَجْع) ۱۷۰۳۔ نُبِيْنٌ زِيْنَتٌ دِيْ كَمِيْ ۱۷۰۴۔ حَبِيْبٌ مَحَبَّتٌ ۱۷۰۵۔ شَهْوَاتٌ خَوَاشِيْ (دَوَاعِدُ: شَهْوَةٌ) ۱۷۰۶۔ فِسَاةٌ عَوْرَتِيْنَ ۱۷۰۷۔ بَنِيْنٌ بِيْطِيْ ۱۷۰۸۔ فَنَّا طِيْرٌ خِرَانِيْ ۱۷۰۹۔ مُقَنْطَرَةٌ ڈھیر لگے ہوئے ۱۷۱۰۔ ذَهَبٌ سَوْنَا ۱۷۱۱۔ فِضَّةٌ جَانْدِي ۱۷۱۲۔ كَحِيْلٌ گھوڑے ۱۷۱۳۔ مَسْوَمَةٌ نِشَان لگے ہوئے

بازار عربی (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۷۱۳- اِنْعَامُ موشی، چوپائے
 ۱۷۱۵- حَرَاتٌ کھیتی
 ۱۷۱۶- حُسْنُ الْمَاءِ اچھا ٹھکانا، اچھی جگہ
 ۱۷۱۷- اِنْرَاجٌ جوڑے، بیویاں
 ۱۷۱۸- مَطَهْرَةٌ پاک صاف، تھری
 ۱۷۱۹- رِضْوَانٌ رضامندی
 ۱۷۲۰- بَصِيرَةٌ دیکھنے والا
 (مصدر: بَصَارَةٌ)
 ۱۷۲۱- عِبَادٌ بندے
 ۱۷۲۲- قَنَا بچا، ہم کو
 دق بچا۔ ناہم کو،
 سچے
 ۱۷۲۳- صِدْقَيْنٌ فرمانبرداری کرینوالے
 ۱۷۲۴- قَانِتَيْنٌ فرمانبردار
 ۱۷۲۵- قَانِتٌ خراج کرینوالے
 ۱۷۲۶- مُتَّقِيَيْنٌ بخشش مانگنے والے
 ۱۷۲۷- مُسْتَعْرِضَيْنٌ مغفرت چاہنے والے
 ۱۷۲۸- اَسْحَابُ رَاتٍ کی آخری گھڑیاں
 رات کا بچھلا حصہ
 ۱۷۲۹- شَهْدٌ گواہی دی
 ۱۷۳۰- اِنَّهُ کہ وہ

بازار عربی (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۷۳۱- اُولُو الْعِلْمِ علم والے
 ۱۷۳۲- قَائِمٌ قائم
 ۱۷۳۳- قِسْطٌ انصاف
 ۱۷۳۴- اِعْنَ بَزٌ غالب
 ۱۷۳۵- حَكِيمٌ حکمت والا
 اَلتَّصِفُ
 ۱۷۳۶- سَمِعَ اِحْسَابًا جلد حساب لینے والا
 ۱۷۳۷- اَسْلَمْتُ میں تابع فرماں ہو گیا
 ۱۷۳۸- رُحْمٌ میرا
 ۱۷۳۹- مَنِ اتَّبَعَنِي جس نے اتباع کی
 میری داصل میں
 آخری حرف رنی
 ہے یعنی میری
 عبارت میں صرف
 ن مجھے اور میرا
 ترجمانی کرتا ہے۔
 ۱۷۴۰- تَوَلَّوْا پھر گئے وہ
 ۱۷۴۱- بَلَغَ پہنچا دینا
 ۱۷۴۲- يَأْمُرُونَ حکم کرتے ہیں

بازار عربی (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۷۴۳- حَبِطَتْ غارت ہو گئے
 (ح ب ط)
 ۱۷۴۴- غَرَّ فريب دیا، دھوکہ دیا
 ۱۷۴۵- مَا يَفْتَرُونَ جھوٹ بتاتے تھے
 جو کچھ
 ۱۷۴۶- كَيْفَ کیسے، کس طرح
 ۱۷۴۷- دَوَّقِيَتْ پورا دیا جاتے گا
 ۱۷۴۸- اَللّٰهُمَّ يَا اللّٰهُ
 ۱۷۴۹- مَا لَكَ مالک
 ۱۷۵۰- اَمْلَكَ سلطنت، مالک
 ۱۷۵۱- تَشَاءُ تو چاہتا ہے
 ۱۷۵۲- تَنْزِعُ تو چھین لیتا ہے
 دن س ع
 ۱۷۵۳- تَنْزِلٌ تو ذلیل کرتا ہے
 ہاتھ
 ۱۷۵۴- يَدٌ بے شک تو
 ۱۷۵۵- اَنْكَ تُو داغل کرتا ہے
 (د ل ج)
 ۱۷۵۷- لَيْلٌ رات
 ۱۷۵۸- نَهَاسٌ دن
 ۱۷۵۹- اَوْلِيَاءُ دوست
- نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۷۶۰- اِدْوَنُ سوا
 ۱۷۶۱- بَنِي شَيْبَى کسی معاملہ میں،
 کسی شے میں
 ۱۷۶۲- نَقَّةٌ بجا و کرنا
 ۱۷۶۳- يَحْزِرُ ڈراتا ہے دھڑرہ
 ۱۷۶۴- نَفْسَةٌ اپنی ذات سے
 ۱۷۶۵- مَحْضِيٌّ حاضر، موجود
 ۱۷۶۶- اَمَلٌ اَلَيْكُمَا مسافت ڈور کی
 ۱۷۶۷- اَبْرٌ عَرُوفٌ شفقت کرنے والا
 بچ
 ۱۷۶۸- ذُرِّيَّةٌ اولاد
 (جمع: ذُرِّيَاتٌ)
 ۱۷۶۹- اِمْرَأَتٌ بیوی، عورت
 ۱۷۷۰- بَطْنٌ پیٹ
 ۱۷۷۱- مُحَرَّرًا آزاد کیا ہوا
 ۱۷۷۲- وَضَعَتْ جنی (بچہ جنی)
 ۱۷۷۳- وَضِعَ جننا
 ۱۷۷۴- اَلذَّكَرُ مرد
 ۱۷۷۵- اُنْثَى عورت
 ۱۷۷۶- سَمِيَتْ نام رکھا میں نے
 (س م ی)

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۷۷- اُعِينُ	پناہ میں دیا میں نے
(ع و ذ)	
۱۰۷۸- اُنْهَيْتُ	اٹھایا، اگایا، بڑھایا
۱۰۷۹- اُنْبِئْتُ	اگانا، بڑھانا
۱۰۸۰- اُكْفَلُ	کفیل مقرر کیا،
	پرورش کیلئے سوچنا
۱۰۸۱- اُحْجِرُ	محداب حجرہ، مکہ و عبادت
	گاہوں سے متصل سطح
	زمین سے بلندی پر
	بنائے جانوالے کرے
	جو فلام اور علماء کیلئے
	مخصوص ہوتے تھے
۱۰۸۲- اُنْبِيْ	کہاں
۱۰۸۳- اُنْهَيْتُ	اُسِيْ جگہ وہیں
۱۰۸۴- اُنْهَيْتُ	پکارا
۱۰۸۵- اُنْهَيْتُ	دے
۱۰۸۶- اُنْهَيْتُ	میں لڈنک تیری طرف سے
۱۰۸۷- اُنْهَيْتُ	مُصَدِّقًا تصدیق کرنا والا
۱۰۸۸- اُنْهَيْتُ	کلیتہً فرمان، بات
۱۰۸۹- اُنْهَيْتُ	سرور
۱۰۹۰- اُنْهَيْتُ	پارسا، معصوم

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۹۱- اُنْهَيْتُ	لوکا جمع، غلمان،
۱۰۹۲- اُنْهَيْتُ	بڑھایا
۱۰۹۳- اُنْهَيْتُ	بانجھ
۱۰۹۴- اُنْهَيْتُ	کہ نہیں دان لاء
۱۰۹۵- اُنْهَيْتُ	اشارہ
۱۰۹۶- اُنْهَيْتُ	پاک بیان کر
۱۰۹۷- اُنْهَيْتُ	شام
۱۰۹۸- اُنْهَيْتُ	صبح
۱۰۹۹- اُنْهَيْتُ	فرمان برداری کر
۱۱۰۰- اُنْهَيْتُ	تجربہ دوحد: نبیاء،
۱۱۰۱- اُنْهَيْتُ	ہم وحی کرتے ہیں۔
۱۱۰۲- اُنْهَيْتُ	نہیں تھا تو
۱۱۰۳- اُنْهَيْتُ	پاس اُن کے
۱۱۰۴- اُنْهَيْتُ	نزدیک، پاس
۱۱۰۵- اُنْهَيْتُ	جب ڈالتے تھے
۱۱۰۶- اُنْهَيْتُ	قلہیں دوحد: قلم،
۱۱۰۷- اُنْهَيْتُ	کون اُن میں کا
۱۱۰۸- اُنْهَيْتُ	کون
۱۱۰۹- اُنْهَيْتُ	بھگڑا کرتے تھے
۱۱۱۰- اُنْهَيْتُ	ذی عزت، ابرو والا

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۱۱- اُنْهَيْتُ	قریب کئے ہوتے لوگ
۱۱۱۲- اُنْهَيْتُ	جھولا، گوارہ، گود
۱۱۱۳- اُنْهَيْتُ	ادھیڑ عمر
۱۱۱۴- اُنْهَيْتُ	آدمی
۱۱۱۵- اُنْهَيْتُ	فیصل کیا، مقرر کیا
۱۱۱۶- اُنْهَيْتُ	کام
۱۱۱۷- اُنْهَيْتُ	بنانا ہوں میں
۱۱۱۸- اُنْهَيْتُ	مٹی
۱۱۱۹- اُنْهَيْتُ	جیسے، مانند، شکل
۱۱۲۰- اُنْهَيْتُ	پرنند جمع: ٹیڈوں،
۱۱۲۱- اُنْهَيْتُ	پھونکنا
۱۱۲۲- اُنْهَيْتُ	اللہ کا حکم
۱۱۲۳- اُنْهَيْتُ	چکا کرنا ہوں اچھا کرنا ہوں
۱۱۲۴- اُنْهَيْتُ	مادر زاداندا
۱۱۲۵- اُنْهَيْتُ	کوڑھی
۱۱۲۶- اُنْهَيْتُ	مردے
۱۱۲۷- اُنْهَيْتُ	جمع کرتے ہو،
۱۱۲۸- اُنْهَيْتُ	ذخیرہ کرتے ہو
۱۱۲۹- اُنْهَيْتُ	دیکھا، احساس کیا۔
۱۱۳۰- اُنْهَيْتُ	مددگار
	حضرت عیسیٰ کے صحابی

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۳۱- اُنْهَيْتُ	یا کھڑے سفید کرنا والے
۱۱۳۲- اُنْهَيْتُ	ہم
۱۱۳۳- اُنْهَيْتُ	تدبیر کرنا، چال کرنا
۱۱۳۴- اُنْهَيْتُ	الثلثہ
۱۱۳۵- اُنْهَيْتُ	تھکوا میں لینے والا ہوں
۱۱۳۶- اُنْهَيْتُ	کسی عہدیدار کو اسکے
۱۱۳۷- اُنْهَيْتُ	منصب سے واپس بلانا
۱۱۳۸- اُنْهَيْتُ	بلند کرنے والا ہوں
۱۱۳۹- اُنْهَيْتُ	پورا دے گا
۱۱۴۰- اُنْهَيْتُ	داجری جمع، بدلہ
۱۱۴۱- اُنْهَيْتُ	مٹی
۱۱۴۲- اُنْهَيْتُ	ہم دل سے دعا کریں
۱۱۴۳- اُنْهَيْتُ	توجہ سے دعا مانگنا
۱۱۴۴- اُنْهَيْتُ	دب لے لے
۱۱۴۵- اُنْهَيْتُ	بیانِ دَقَصٍ، بَقِصٍ
۱۱۴۶- اُنْهَيْتُ	قصہ
۱۱۴۷- اُنْهَيْتُ	برائے
۱۱۴۸- اُنْهَيْتُ	آؤ، آجاؤ
۱۱۴۹- اُنْهَيْتُ	پالنے والے ربُّنِیِّ
۱۱۵۰- اُنْهَيْتُ	ہاں تم ہو

سورۃ آل عمران

نمبر شمار عربی اُردو

۱۸۳۵- هُوَ الَّذِي يَهْدِي بَيْنَ يَدَيْهِ لُكُومًا
۱۸۳۶- حَاجِبًا جَنَّتُمْ جَهَنَّمَ
۱۸۳۷- اُدْنَى النَّاسِ نَزْدِيكَ تَرُكُّوْنَ

۱۸۳۸- طَائِفَةٌ جَمَاعَتٌ تُولِي كُرُوه
۱۸۳۹- وَجَنَّةٌ لِّمَن كَانَ عَمَلُ خَيْرٍ فِيهَا

۱۸۴۰- يَخْتَصُّ بِهَا رَبُّكَ مَن يَشَاءُ
۱۸۴۱- تَأْتِيهِمْ فِيهَا الْوُجُوهُ

۱۸۴۲- خِرَازِمٌ لِّمَن يَشَاءُ
۱۸۴۳- لَوْ طَافَ لَبِغَا

۱۸۴۴- رِجَالٌ مِّنْ دُونِهَا
۱۸۴۵- قَارِعًا

۱۸۴۶- سَبِيلٌ رَّاهَ رَجَعِ بَسْبَلٌ
۱۸۴۷- اُدْنَىٰ

۱۸۴۸- اَيُّمَانٌ لِّمَن يَشَاءُ
۱۸۴۹- حَصَّةٌ

۱۸۵۰- يَلُوتُونَ مَوْرَتَهُنَّ
۱۸۵۱- يَبِيحُ وَيَتَّخِذُ

۱۸۵۲- اَلْسِنَتَهُمْ نَزَائِمًا لِّمَن يَشَاءُ
۱۸۵۳- دَوَّاحٍ لِّسَانًا

۱۸۵۴- رِيَابِ يَابِسِينَ اللّٰهُ وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ

سورۃ آل عمران

نمبر شمار عربی اُردو

۱۸۶۳- سَكَّاهٍ سَكَّاهٍ
۱۸۶۴- تَلَّوْنَ كُرْسِيًّا

۱۸۶۵- اَصْحٰبِ عَهْدٍ مِّرَا
۱۸۶۶- يَتَّبِعُونَ

۱۸۶۷- طَوْعًا
۱۸۶۸- كَرَاهًا

۱۸۶۹- يَتَّبِعُونَ
۱۸۷۰- حَبَا

۱۸۷۱- اَيُّدِ اِلٰهِيَّةٍ
۱۸۷۲- اَتَىٰ تَوَاسِعُ

۱۸۷۳- لَانِ كَيْفَ هُوَ كَيْفَ
۱۸۷۴- لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ

۱۸۷۵- اَصْلَحُوا سَوْرَةً تَهَيَّأْتُمْ
۱۸۷۶- اِمْرًا دَادُوا

۱۸۷۷- كَيْفَ
۱۸۷۸- اَرْضِ زَيْنٍ بَهْرَكُ

۱۸۷۹- ذَهَبًا سَوْنًا
۱۸۸۰- اَفْتَلَىٰ فِدْيَةَ

۱۸۸۱- بَدَلًا
۱۸۸۲- اَلَيْمٌ

۱۸۸۳- اَلَيْمٌ

سورۃ آل عمران

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ آل عمران

۱۸۸۸- لَنْ هُمْ كَرِهِيْنَ
۱۸۸۹- اَيُّدِ اِلٰهِيَّةٍ

۱۸۹۰- نَبِيًّا
۱۸۹۱- اَلَيْمٌ

۱۸۹۲- طَعَامًا
۱۸۹۳- حَلَالًا

۱۸۹۴- حَلَالًا
۱۸۹۵- اِفْتَرَا

۱۸۹۶- كَذِبًا
۱۸۹۷- صِدْقًا

۱۸۹۸- حَقِيْقًا
۱۸۹۹- وَضِعًا

۱۹۰۰- اَلَيْمٌ
۱۹۰۱- اَلَيْمٌ

۱۹۰۲- اَلَيْمٌ
۱۹۰۳- اَلَيْمٌ

۱۹۰۴- اَلَيْمٌ
۱۹۰۵- اَلَيْمٌ

سورۃ آل عمران

نمبر شمار عربی اُردو

۱۸۹۳- اَمِنًا
۱۸۹۴- اَمِنًا

۱۸۹۵- اَمِنًا
۱۸۹۶- اَمِنًا

۱۸۹۷- اَمِنًا
۱۸۹۸- اَمِنًا

۱۸۹۹- اَمِنًا
۱۹۰۰- اَمِنًا

۱۹۰۱- اَمِنًا
۱۹۰۲- اَمِنًا

۱۹۰۳- اَمِنًا
۱۹۰۴- اَمِنًا

۱۹۰۵- اَمِنًا
۱۹۰۶- اَمِنًا

۱۹۰۷- اَمِنًا
۱۹۰۸- اَمِنًا

۱۹۰۹- اَمِنًا
۱۹۱۰- اَمِنًا

۱۹۱۱- اَمِنًا
۱۹۱۲- اَمِنًا

۱۹۱۳- اَمِنًا
۱۹۱۴- اَمِنًا

۱۹۱۵- اَمِنًا
۱۹۱۶- اَمِنًا

سُورَةُ آلِ عَمْرَانَ

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۱۹۲۳- مُنْكَرٌ بُرَىٰ بَات
۱۹۲۴- اُدْمَىٰ تَكْلِيف
۱۹۲۵- اُدْبَاَسُ سِطِّهِيں
(دواحد: دُبُوْءُ)
- ۱۹۲۶- بَاۡءٌ مُّسْتَقِيْمٌ يُّوۡا
۱۹۲۷- عَصَبُوۡا نَافِرَانِیٰ كِی اُنھوں نے
۱۹۲۸- كَاوُۡا یَعْنُوۡنَ زِیَادِیٰ كِرْتے تھے
۱۹۲۹- اَعْتَدِۡۤا زِیَادِیٰ كِرْنَا
۱۹۳۰- لَیْسُوۡا نَہیں ہیں وہ
۱۹۳۱- سَوَاۡءٌ بَرَابِر
۱۹۳۲- اِنۡاۡءٌ اَوۡقَاتٌ گھڑی
۱۹۳۳- یَسَارِعُوۡنَ جلدی کرتے ہیں
۱۹۳۴- حَیۡرَاتٌ اُچھے کام
۱۹۳۵- صَالِحِیۡنَ صَالِحِ لُوكِ
(دواحد: صَالِحٌ)
- ۱۹۳۶- لَنْ یُّكْفِرُوۡۤا نَہیں نكاریا جائیگا
اُن کا نہیں ناقدری
كی جاتے گی اُن کی
۱۹۳۷- لَنْ نَعۡتٰی نَہیں كام آوے گا
ہوا
۱۹۳۸- بِرِیۡاۡحِ ہوا
۱۹۳۹- صَوۡءٌ پالا، تیز سردی

سُورَةُ الْاٰنۡعَامِ

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۱۹۴۰- حَوۡرَتٌ كَھِیۡتِی
۱۹۴۱- بَطَانَتَا رَاۡزِدَاۡرِ دُوسٲ
۱۹۴۲- لَآیۡا لُوۡنَ نَہیں كَم كریں گے
(دالُوْءُ)
- ۱۹۴۳- حَمٰلَاۡ تَبَاہِی
۱۹۴۴- وَدَّۡۤا جَابَا اُنھوں نے
۱۹۴۵- عَنۡتَمُ تَكْلِیۡفِیۡنِ پُرُوۡتَمِ
(د ع ن ت)
- ۱۹۴۶- بَدَاتٌ ظَاہِرِیۡوَكِی
۱۹۴۷- بَعۡضَاۡءٌ بَعۡضٌ نَارَاضِی
۱۹۴۸- اَفُوۡۤا مَنۡھ
(دواحد: فُوۡۤا)
- ۱۹۴۹- هَاۡ اَنْتُمْ اُوۡلَاۡءُ تَمۡوَدُّوۡہِ لُوكِ ہُو
۱۹۵۰- عَضُوۡا كَاٹ كھایا اُنھوں نے
۱۹۵۱- عَضٌ كَاٹ كھانا
۱۹۵۲- اِنۡاۡمِلِ اَنگلیاں
۱۹۵۳- عِیۡظٌ عَصَہ
۱۹۵۴- مُوۡلُوۡۤا مَرۡجَاۡقُ
۱۹۵۵- بَدَاۡتِ اِلۡصَدۡ سِیۡنۡہِ وَالیٰ بَات
۱۹۵۶- تَسۡسِکُمۡ لَکے چھوٹے تَم كُو
(د م، س، س)
- نمبر شمار عربی اُردو
- ۱۹۵۷- سَمُوۡہُمۡ بَرَالِکے اُن كُو
۱۹۵۸- فَرَحٌ خُوۡش ہونا
۱۹۵۹- كِیۡدٌ تَدۡبِیۡرٌ چال
(دواحد: سَمُوۡہُمۡ)
- ۱۹۶۰- عَدُوۡتٌ سُوۡرِیۡہِ چَلَا لُوۡءُ
(د ع، د، د)
- ۱۹۶۱- نُبُوۡۤیۡ جِلۡہِ تَبَاۡیٰ تُوۡنَہِ
۱۹۶۲- نُبُوۡۤا جِلۡہِ دِیۡنَا
۱۹۶۳- مَتَاعِدٌ بَیۡٹھنے کی جگہ
(دواحد: مَقَعِدٌ)
- ۱۹۶۴- قِتَالٌ جَنگ، لڑائی
۱۹۶۵- هَمٌّ اِرَادَہ كِرْنَا، قَصَدُ كِرْنَا
۱۹۶۶- طَاۡقِفَانٌ دُوجا عتیبیں
۱۹۶۷- تَقَشَّلَاۡ بَھسل جاتیں،
بزدل بنکر
۱۹۶۸- فَشَلٌ بَرَدِیٰ كِرْنَا،
بھسل جانا
۱۹۶۹- بَدَلٌ جَنگ بدر
۱۹۷۰- اَدۡلٰۃٌ ذَبِیۡل
(دواحد: ذَلِیۡلٌ)
- ۱۹۷۱- اَلۡنِ كِیَا نَہیں

سُورَةُ الْاٰنۡعَامِ

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۱۹۰۶- اَعۡنَاۡءٌ دِشمن
۱۹۰۷- اَلۡفُ اَلۡفَتِ دِی، حِجۡتِ دِی
۱۹۰۸- اُھَبِّحۡنَہُمۡ ہُو گئے تَم
۱۹۰۹- اِخۡوَانَاۡ بھائی
(دواحد: اِخٌ)
- ۱۹۱۰- شَقَاۡ كِنَارِے
۱۹۱۱- حَضَرَتَا گڑھا
۱۹۱۲- اَلۡنَقَدُ جُھڑایا، بچایا
۱۹۱۳- وَتَلۡكُنُۡ اُور چاہیے كہ ہو
۱۹۱۴- اُمَّتٌ اِیك جماعت
۱۹۱۵- نَبِیۡضٌ سَفِیۡد ہوں گے
(دب، ہی، ض)
- ۱۹۱۶- وُجُوۡۤا چہرے
(دواحد: وَجۡہٌ)
- ۱۹۱۷- تَسۡوَدُ كالے ہوں گے
۱۹۱۸- تَرۡجَعُ رُجُوع كتے جاتیں گے
۱۹۱۹- اَلۡاُمُوۡرُ تَمَام اُمور، سب كام
ج
- ۱۹۲۰- حَیۡرُۡۤاۡمۡتِۡۤہِ بَہترین اُمۡت
۱۹۲۱- اٰخِرُۡۤاۡ حِجۡتِ نكالی كہتی
۱۹۲۲- تَنۡہَوۡنَ تَم مَنع كرتے ہُو

پارہ نمبر ۳۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۹۷۲۔ یُہْدُ مدد کرے
 ۱۹۷۳۔ ثَلَاثَةَ الْآلِفِ تین ہزار
 ۱۹۷۴۔ مُنْذَرِينَ اُنار سے ہوئے
 ۱۹۷۵۔ بَلِي بلی بلکہ کیوں نہیں
 ۱۹۷۶۔ فُؤْرًا جوش
 ۱۹۷۷۔ خَمْسَةَ پانچ
 ۱۹۷۸۔ مُسْمِينَ نشان لگے ہوئے

الرابع

۱۹۷۹۔ بُشْرَى خوشخبری
 ۱۹۸۰۔ نَطْمِينَ اطمینان ہو جائے
 ۱۹۸۱۔ قَطْعًا کاٹنا
 ۱۹۸۲۔ طَرْفًا بازو، حصہ
 ۱۹۸۳۔ كَلْبًا ذلیل کرنا
 ۱۹۸۴۔ يَنْقَلِبُونَ پلٹ گئے
 (مصدر: اِنْقِلَاب)
 ۱۹۸۵۔ خَائِبِينَ ناامرد
 ۱۹۸۶۔ اَضْفًا دنگنا بڑھتا
 ۱۹۸۷۔ مَضَاعِفًا کٹی گنا چڑھتا
 ۱۹۸۸۔ اَعْدَاتُ تیار کی گئی

سُورَةُ آلِ عَرَابِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۹۸۹۔ سَارِعُونَ جلدی کرو
 (دس راع)
 ۱۹۹۰۔ عَرَضٌ چوڑائی، عرض
 ۱۹۹۱۔ سَوَاءٌ خوشی
 ۱۹۹۲۔ ضَرَاءٌ سختی
 ۱۹۹۳۔ كَاطِبِينَ نبی جانے والے
 ۱۹۹۴۔ غَيْظٌ غصہ
 ۱۹۹۵۔ عَاقِبِينَ معاف کرنا
 ۱۹۹۶۔ فَاجِشْتُمْ بے حیائی
 ۱۹۹۷۔ ذُؤُوبٌ گناہ
 (واحد: ذَنْبٌ)
 ۱۹۹۸۔ لَمْ نہیں
 ۱۹۹۹۔ يَصُودًا ہٹ، ضد کرنا
 ۲۰۰۰۔ نَعَمَ بہت اچھا
 ۲۰۰۱۔ عَامِلِينَ کام کرنے والے
 ۲۰۰۲۔ سُنَنَ راہیں
 ۲۰۰۳۔ سِيرًا سیر کرو
 ۲۰۰۴۔ عَاقِبَةَ انجام
 ۲۰۰۵۔ بَيَانَ بیان
 ۲۰۰۶۔ مَوْعِظَةً نصیحت
 ۲۰۰۷۔ لَاتَهْوُوا مت سستی کرو

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۰۰۸۔ اَعْلَوْنَ بلند ہو گے
 (واحد: اَعْلَى)
 ۲۰۰۹۔ تَوَحَّحٌ زخم
 ۲۰۱۰۔ مَسَّ لگا، چھوا
 ۲۰۱۱۔ اَيَّامًا دن
 ۲۰۱۲۔ نَدَّ اِدْوَالَ ہم باری باری
 پھرتے ہیں
 ۲۰۱۳۔ دَدَّوْنَ گردش
 دینا
 ۲۰۱۴۔ يَبْجِصُ وہ خالص کرتا ہے
 ۲۰۱۵۔ يَهْجِصُ خالص کرنا
 ۲۰۱۶۔ مَحَقٌ مٹانا
 ۲۰۱۷۔ تَمْتَنُونَ تم تمنا کرتے تھے
 ۲۰۱۸۔ كَيْفًا کیا
 ۲۰۱۹۔ فِ پس
 اگر
 ۲۰۲۰۔ اَفْكَانٌ کیا پس اگر
 ۲۰۲۱۔ مَاتَ مر جائے
 ۲۰۲۲۔ اِنْقَلَبْتُمْ پھر جاؤ گے
 ۲۰۲۳۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۲۴۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۲۵۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۲۶۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۲۷۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۲۸۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۲۹۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۰۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۱۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۲۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۳۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۴۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۵۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۶۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۷۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۸۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۳۹۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں
 ۲۰۴۰۔ اَعْقَابُ ایرٹیاں

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۴۰۔ تَحْسُونَ تم کاٹ رہے تھے
(حَسَنٌ بَاطِلًا)
۲۰۴۱۔ فَشَلَلْتُمْ پھسل گئے
د ف ش ل
۲۰۴۲۔ تَنَازَعْتُمْ تنازعہ کیا تم نے
۲۰۴۳۔ عَصَيْتُمْ نافرمانی کی تم نے
ر م ص د مَعْصِيَةٌ
عَصِيَانٌ
۲۰۴۴۔ صَرَفَ پھیر دیا
۲۰۴۵۔ تَصْعِدُونَ تم چڑھے جاتے تھے
د ص ع د
۲۰۴۶۔ لَا تَلْسُونَ نہیں مڑے تم،
نہیں پلٹے تم
تاکہ نہیں
۲۰۴۷۔ لَكِنَّا
۲۰۴۸۔ فَاتٌ چوک گئی، نکل گئی
ا و ن گھ
۲۰۴۹۔ نَعَّاسًا ڈھانکتی رہی، پھاگئی
د غ س ی
۲۰۵۱۔ هَلْ لَنَا کیا ہے ہمارے لئے؟
۲۰۵۲۔ هَهُنَا یہاں، اس جگہ
۲۰۵۳۔ بَرَزْنَا نکلنا

سورۃ آل عمران

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۵۴۔ مَضَارِجٍ لیٹنے کی جگہ
۲۰۵۵۔ اِلْتَقَىٰ ملیں، پھر گئیں
۲۰۵۶۔ جَمَعْنِ دوجا عتیں
۲۰۵۷۔ اِسْتَزَلَّ پھسلا دیا، ڈگمگا
دیا۔
۲۰۵۸۔ عَفَا مَعاف کر دیا
بچ
۲۰۵۹۔ صَرَفَ پلے وہ
۲۰۶۰۔ غَزَىٰ لڑنے والے
د و ا ح د عَاذِي
۲۰۶۱۔ حَسْرَةً پچھتاوا، حسرت
۲۰۶۲۔ اِلْتَمَسْنَا
۲۰۶۳۔ تَحْتَرُونَ تم جمع کئے جاؤ گے
د ح س ن ر
۲۰۶۴۔ فِيمَا پس ساتھ جو
۲۰۶۵۔ لِيُنْتِزَمَ نرم ہو تو دماضی
مضارع لان
۲۰۶۶۔ فَنُتَاجَ تلامذہ

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۶۷۔ عَلِيْبُ الْقَلْبِ سخت دل
۲۰۶۸۔ اِنْقَضُوا دہ منسٹر ہو جاتے،
بھاگ جاتے
۲۰۶۹۔ حَوْلِكَ گرد تیکر،
آس پاس تیکر
۲۰۷۰۔ شَاوِرٌ مشورہ کرے
دُمُشَاوِرَةٌ
سے فعل امر
۲۰۷۱۔ عَزَمْتُ قصد کیا لوئے،
عزم کیا
۲۰۷۲۔ مَتَوَكَّلِينَ بھروسہ کرنے والے
چھوڑ دینا
۲۰۷۳۔ يَغْلِبُ خیانت کرے گا
۲۰۷۴۔ غَلَبَ خیانت کرنا،
خیانت کیا۔
۲۰۷۵۔ تَوَفَّىٰ یوڑا دیا جائے گا
ناراض، ناراضگی،
غصہ، غضب
۲۰۷۶۔ مَا دَا طھکانہ، جگہ
۲۰۷۷۔ بَشَسَ بُرا، خراب
۲۰۷۸۔ مَوَصَّيْرًا پھر جانے کی جگہ

سورۃ آل عمران

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۸۱۔ مَنَ احسان کیا
۲۰۸۲۔ بَعَثَ بھیجا، کھڑا کیا
۲۰۸۳۔ اُ کیا
۲۰۸۴۔ وَا اور
۲۰۸۵۔ لَبَّأْنَا جب
۲۰۸۶۔ وَجَّهْنَا دو گنی، مثل
کہاں
۲۰۸۸۔ نُمَانِقٌ ہوتے وہ
۲۰۸۹۔ نَعَاؤًا
۲۰۹۰۔ قَاتِلُونَ لڑو
۲۰۹۱۔ اِدْفَعُوا دفع کرو، ہٹاؤ
۲۰۹۲۔ يَوْمَئِذٍ اُس دن
۲۰۹۳۔ اَقْرَبُ زیادہ قریب
۲۰۹۴۔ قَعْدُونَ بیٹھ رہے
۲۰۹۵۔ لَوْ اگر
۲۰۹۶۔ اَطَاعُوا کہا مانتے وہ
۲۰۹۷۔ فَادْرَأُوْا پس ہٹا لو
۲۰۹۸۔ لَا تَحْسَبَنَّ مت کمان کر کہ
۲۰۹۹۔ يُؤْزِقُونَ رزق دے جاتے
ہیں۔
۲۱۰۰۔ فَرِحِينَ خوش ہیں

پارہ نمبر ۲۳

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۰۱۔ یَسْتَبْشِرُونَ نوحی منار ہے ہیں
یا بشارت دے رہے ہیں
- ۲۱۰۲۔ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَقٌّ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُمْ لِمَ لَا يَأْتِيكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِنُورٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ لَا تَأْتِيكُمُ الْسَّمَكُ مِنَ الْبَحْرِ وَلَا يَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِنَ الْبَحْرِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكُمْ فَلِمَ إِذْ تُسْأَلُونَ عَنْ آيَاتِ رَبِّكُمْ تَقُولُونَ مَا لَا يَخْلُقُ إِلَّا سُبْحَانُ الْمَلِكِ الْقَدِيمِ
- ۲۱۰۳۔ اِسْتَجَابُوا قَوْلَ رَبِّهِمْ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْبِئُكَ بِهِمْ كَمَا نُفِخُ فِي سُرُورٍ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكُتُبَ وَالْحِزْبَ الْجَمْعَ وَالْحِزْبَ الْجَمْعَ
- ۲۱۰۴۔ حَسْبُنَا كَافِي هَيْهَمُ كُو
- ۲۱۰۵۔ نَعْمَ الْوَكِيلُ اچھا کارساز
- ۲۱۰۶۔ اِنْقَلَبُوا نُوٹ آتے
- ۲۱۰۷۔ دُونَ فَضْلِ وَالْا فضل والا
- ۲۱۰۸۔ يُخَوِّفُ خُوفٌ دلاتا
- ۲۱۰۹۔ اَوْ اِيَاءُ دوست
- ۲۱۱۰۔ حَا فُونَ ڈرو مجھ سے
- دخا فوا: ڈرو
- ن: مجھ سے
- ۲۱۱۱۔ يَسْأَلُونَ جلدی کرتے ہیں
- ۲۱۱۲۔ حَظًّا حصہ
- ۲۱۱۳۔ نُفْرِي ہم ڈھیل دیتے ہیں
- ہم ہمت دیتے ہیں
- ۲۱۱۴۔ مُهِينٌ رُؤُوسِ اُکرنے والا
- ۲۱۱۵۔ يَنْزِلُ چھوڑ دے گا

سُورَةُ آلِ عَرٰفِ ۱۱

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۱۶۔ يَمِينًا جِدَا کر دے گا،
الگ کر دے گا۔
- ۲۱۱۷۔ حَبِيبٌ ناپاک
- ۲۱۱۸۔ طَيِّبٌ پاک، اچھا
- ۲۱۱۹۔ يُطْلِعُ اطلاع دیوے
- ۲۱۲۰۔ يَجْتَبِيٰ پسند کرتا ہے،
منتخب کرتا ہے،
- ۲۱۲۱۔ يَخْلُقُونَ بخلی کرتے ہیں
- دب خ ل
- ۲۱۲۲۔ يُطَوِّفُونَ طوق پہنائے جائینگے
- ع
- ۲۱۲۳۔ سَمِعَ سُن لیا
- ۲۱۲۴۔ فَيَقِيْرُ محتاج
- ۲۱۲۵۔ نَحْنُ ہم
- ۲۱۲۶۔ اَعْنِيَاءُ دولت مند
- دواحد: غَنِيٌّ
- ۲۱۲۷۔ دُونَ فَضْلِ چکھو ذرا فقہ
- ۲۱۲۸۔ حَرِيْرٌ جِلْدن، تیز آگ
- ۲۱۲۹۔ طَلَامٌ ظلم کرنے والا
- ۲۱۳۰۔ عَدِيْلٌ بندے
- دواحد: عَبْدٌ

پارہ نمبر ۲۳

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۳۱۔ قَرِيْبَانِ نذر، قربانی
- ۲۱۳۲۔ نَأْمَلُ کھائے، کھا جائے
- ۲۱۳۳۔ فَيَلْمُ پس کیوں
- ۲۱۳۴۔ كَذَّبَ جھٹلائے گئے
- ۲۱۳۵۔ الْمُنِيْرُ روشنی والی
- د ن د ر
- ۲۱۳۶۔ ذٰ اِيْقَةِ چکھنے والی
- ۲۱۳۷۔ تَوَفُّوْنَ تم پورا دے جاؤ گے
- ۲۱۳۸۔ اَجْوَسُ (اجزی جمع) بدلہ
- ۲۱۳۹۔ رُحْرِيْحٌ دُور کر دیا گیا
- ۲۱۴۰۔ فَاَسْرٌ کامیاب ہوا
- د فو ن
- ۲۱۴۱۔ مَتَاعٌ فائدہ
- ۲۱۴۲۔ عَرُوْرٌ دھوکہ
- ۲۱۴۳۔ عَزْمٌ اَلْمُهْرُ حوصلہ کے کام،
ہمت کے کام
- ۲۱۴۴۔ نَبِيْنٌ پھینکنا
- ۲۱۴۵۔ وَرَا عٍ پیچھے
- ۲۱۴۶۔ طَهْمُوْرٌ بیٹھ (جمع)
- ۲۱۴۷۔ اَلْوَدُ کرتے ہیں
- ۲۱۴۸۔ يَحْمَدُ اَلتَّعْرِيفُ کجاٹے گی
- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۴۹۔ مَفَاكِرٌ خُفَّارَةٌ خلاصی، چھٹکارہ،
کامیابی
- ۲۱۵۰۔ اُدُوِيٌّ داے
- ۲۱۵۱۔ اَلنَّبَاتُ عقل
- دواحد: نُبْتُ
- ۲۱۵۲۔ يَنْكُرُوْنَ ذکر کرتے ہیں،
یاد کرتے ہیں
- ۲۱۵۳۔ قِيَامًا کھڑے
- ۲۱۵۴۔ قَعُوْدًا بیٹھے
- ۲۱۵۵۔ جُنُوْبٌ کر ڈیں (دواحد: جُنُبٌ)
- ۲۱۵۶۔ يَنْفَكِرُوْنَ تفر کرتے ہیں
- ۲۱۵۷۔ بَاطِلًا بے فائدہ، بے کار
- ۲۱۵۸۔ سُبْحٰنَكَ پاك ہے تو
- ۲۱۵۹۔ اٰخِرِيْتٌ رُؤُوسِ اُکرنے والا
- د خ س ی
- ۲۱۶۰۔ مُنَادِيًا مُنادی کرنے والا،
اعلان کر کے
- پکارنے والا۔
- ۲۱۶۱۔ كُفْرٌ دُور کر دے

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

۲۱۹۲۔ سَنِيَّاتٌ بُرَاتِيَاں
۲۱۹۳۔ تَوَفَّنَا مَا رَمِمْنَا، وفات دے ہمیں۔

۲۱۹۴۔ مَعَ سَاتِه
۲۱۹۵۔ اَبْرَأَس نیک لوگ

۲۱۹۶۔ ذَكَرَ مَرْد
۲۱۹۷۔ اَنْتَنِي عورت

۲۱۹۸۔ اَوْدُدُوا تکلیم دے گئے

۲۱۹۹۔ تَقَلَّبُ پھلت، پھرت

۲۲۰۰۔ بِلَادِ شَهْرٍ (واحد بلد)

۲۲۰۱۔ مَأْوَا تھکانہ

۲۲۰۲۔ مِهَادِ بچھونا

۲۲۰۳۔ نَزُولًا مہمانی

الثلثة

۲۲۰۴۔ خَاشِعِينَ عاجزی کرنے والے

۲۲۰۵۔ اَصْبِرُوا صبر کرو

۲۲۰۶۔ صَابِرُونَ، ڈٹے رہو

۲۲۰۷۔ اَبْطُوا بندھے رہو،

مضبوط رہو،
﴿﴾

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

النساء

۲۱۷۸۔ بَشَّ پھیلایا

۲۱۷۹۔ اَبْرَأَا مَرْد (جمع)

۲۱۸۰۔ اَسْأَلُونَ تم سوال کرتے ہو

۲۱۸۱۔ اَسْرَحَامَ قرابت، رحم کے رشتے

۲۱۸۲۔ اَبْرَأَا تکیبان

۲۱۸۳۔ اَبْرَأَا یتیم (یتیم لڑکیاں)

۲۱۸۴۔ اَبْرَأَا گناہ

۲۱۸۵۔ اَبْرَأَا بڑا

۲۱۸۶۔ اَبْرَأَا انصاف

۲۱۸۷۔ اَبْرَأَا خوش لگے، پسند آئے

۲۱۸۸۔ اَبْرَأَا دو دو

۲۱۸۹۔ اَبْرَأَا تین تین

۲۱۹۰۔ اَبْرَأَا چار چار

۲۱۹۱۔ اَبْرَأَا انصاف، برابری

۲۱۹۲۔ اَبْرَأَا مالک ہوتے

۲۱۹۳۔ اَبْرَأَا دے، ملکتے

۲۱۹۴۔ اَبْرَأَا ایمان کا لفظ

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

قرآن پاک میں اکثر

جنگ میں پکڑی

ہوئی عورتیں، جو

مقابلہ میں آکر گرفتار

ہو چکی ہوں، یا ز خرید

کیزیوں کے لئے

استعمال ہوئے۔

داہنا ہاتھ چونکہ آدمی

کے مال پر قابض

ہوتا ہے، اور اسے

اختیار ہے کہ اپنا

مال جائز استعمال

میں لائے، اس

لئے اکثر ملکتے

ایمان کا لفظ استعمال

کیا گیا ہے۔

۲۱۹۳۔ اَبْرَأَا داہنے ہاتھ

(واحد: اَبْرَأَا)

۲۱۹۴۔ اَبْرَأَا بہت نزدیک

۲۱۹۵۔ اَبْرَأَا کہ بے انصافی نہ

کر سکو گے

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

۲۱۹۶۔ صَدَقَاتٌ مِهْرٌ

(واحد: صَدَقَاتٌ)

۲۱۹۷۔ نَحْلَةً خوشی سے بخشش

۲۱۹۸۔ هَنِيئًا مزے دار

۲۱۹۹۔ مَرِيئًا خوشگوار

۲۲۰۰۔ قِيَامًا قائم، قیام

(معیشت کیلئے)

۲۲۰۱۔ اَبْرَأَا پہناؤ

۲۲۰۲۔ اَبْرَأَا پہنانا

۲۲۰۳۔ اَبْرَأَا آزمالو

۲۲۰۴۔ اَبْرَأَا یتیم (جمع)

۲۲۰۵۔ اَبْرَأَا پہنچے وہ

۲۲۰۶۔ اَبْرَأَا پانا

۲۲۰۷۔ اَبْرَأَا ہوشیاری

۲۲۰۸۔ اَبْرَأَا لوٹادو

۲۲۰۹۔ اَبْرَأَا زیادتی

۲۲۱۰۔ اَبْرَأَا جلدی جلدی

۲۲۱۱۔ اَبْرَأَا پچا رہے

۲۲۱۲۔ اَبْرَأَا لوٹاؤ یا واپس

کرو۔

۲۲۱۳۔ اَبْرَأَا نصیب

حصہ

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۱۴۔ وَالَّذِينَ مَاتُوا
 ۲۲۱۵۔ قَرَابَتِ وَالْأُولَادِ
 ۲۲۱۶۔ تَهْوِطًا، كَمْ هُوَ
 ۲۲۱۷۔ كَثْرًا زِيَادَةً، بَهْتِ هُوَ
 ۲۲۱۸۔ مَقْرُوضًا مَقْرُورَةً، طَعْنًا
 ۲۲۱۹۔ تَسْبِيحًا، بَانْتِثًا، تَقْسِيمًا كَرْنًا
 ۲۲۲۰۔ أَوْلَادِ الْقَرَابَةِ قَرَابَتِ وَالْأُولَادِ
 ۲۲۲۱۔ يَخْشَى دُرَّيًّا، خَوْفِ كَرِي
 ۲۲۲۲۔ سِدِيدًا نَرْمًا، سِيدِيًّا،
 ۲۲۲۳۔ سَعِيدًا بَهْرًا، كَتِيًّا،
 ۲۲۲۴۔ حَظًّا حَصْبًا
 ۲۲۲۵۔ اِنْشَائِيًّا دَوَّارِيًّا
 ۲۲۲۶۔ تَلْتًا دَوَّارِيًّا (تَمَوْنَتًا)
 ۲۲۲۷۔ نَصْفًا أَدَهًا
 ۲۲۲۸۔ سُدُسًا قَهْطًا (حَصْبًا)
 ۲۲۲۹۔ ثُلُثًا تَيْسَرًا (حَصْبًا)
 ۲۲۳۰۔ اِخْوَةً بَهَائِيًّا (بَهَائِيًّا)

سورۃ النساء

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۳۱۔ ذِيْنَ قَرَضٍ
 ۲۲۳۲۔ لَاتَكُنْ دُونَ نَهِيْنٍ تَمَّ جَانْتِ
 ۲۲۳۳۔ ذَكَرُ اَوْلَادٍ (لِطَرَفًا)
 ۲۲۳۴۔ رُبْعًا قَوْتَهَائِيًّا
 ۲۲۳۵۔ ثَمْنًا اَهْلُوًّا
 ۲۲۳۶۔ كَلَلَةً اَيْسِيًّا مَيْتِ بَوَائِنِ
 ۲۲۳۷۔ تَهْوِطًا اَوْلَادِ
 ۲۲۳۸۔ اَحًا بَهَائِيًّا
 ۲۲۳۹۔ كَلًّا وَاِجْدًا هَرَاكًا
 ۲۲۴۰۔ شَرَّكَاءَ سَاجِحًا، بَرَابَرًا كَرِي
 ۲۲۴۱۔ عِيْلًا مَضَارًّا مَضْرِبًا، بَهَائِيًّا جَانْتِ
 ۲۲۴۲۔ حَلًّا وَذَلَّلًا حَدِيْسًا اَللَّهِيًّا
 ۲۲۴۳۔ يَنْعَدًا ضَابِطًا سَعْنًا كَرِيًّا،
 ۲۲۴۴۔ اَهْسِكُوْا رَوَكًا لَوْ
 ۲۲۴۵۔ اَلْتَبِيَّ وَهَ عَوْرَتِيْنِ
 ۲۲۴۶۔ اَنْرَابَعَةً جَارِيًّا
 ۲۲۴۷۔ اَهْسِكُوْا رَوَكًا لَوْ

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۴۷۔ اَلَّذِيْنَ اَنْزَلْنَا اَنْزَالَ
 ۲۲۴۸۔ اَذْوًا تَكْلِيْفًا دَوًّا، اِيْزَادًا
 ۲۲۴۹۔ اَعْرَضُوْا اِعْرَاضًا كَرِيًّا
 ۲۲۵۰۔ اَبَاؤَ اَبَائِهِمَا تَوْبَةً، قَبُوْلًا كَرِيْمًا،
 ۲۲۵۱۔ جَهَالَةً نَادِيًّا، جِهَالَتِ
 ۲۲۵۲۔ كَرِهًا زَبْرًا
 ۲۲۵۳۔ اَلتَّغْلُوْا اَمْتًا رَوَكًا
 ۲۲۵۴۔ لَتَنْ هَبُوْا اِسْمًا لَيْسَ لَكَ لَوْ،
 ۲۲۵۵۔ مُبَيِّنَةً ظَاهِرًا، صَافًا
 ۲۲۵۶۔ عَابَسُوْا خَوْفِيًّا سَعْنًا
 ۲۲۵۷۔ عَسِيًّا مَمْكَنًا
 ۲۲۵۸۔ اِسْتَبَدَّ اَلْبَدَلُ لِيْنَا، اَيْكًا
 ۲۲۵۹۔ مَمْكَنًا تَهْكَنًا، جَكَّةً
 ۲۲۶۰۔ قَنْطَارًا خَزَانَةً، مَالًا كَاثِرًا
 ۲۲۶۱۔ اَقْضَى رِبْلًا جَكَّةً
 ۲۲۶۲۔ هَيْتَانِ قَوْلِ
 ۲۲۶۳۔ غَلِيْظًا كَاثِرًا
 ۲۲۶۴۔ سَلَفًا هُوَ جَكَّةً كَاثِرًا
 ۲۲۶۵۔ مَقْتًا نَفْرَتِ كِي بَاتِ،
 ۲۲۶۶۔ اَهْمَاكًا مَائِيًّا (اَمْ مَائِيًّا)
 ۲۲۶۷۔ بَيْتًا بَيْتًا
 ۲۲۶۸۔ اَخْوَاتِ بَهَائِيًّا
 ۲۲۶۹۔ عَشَاتِ پَهْوِيَّا
 ۲۲۷۰۔ بَنَاتِ اَلْاَخْتِ بَيْتًا بَهَائِيًّا
 ۲۲۷۱۔ اَمْرًا صَعْنًا دُوْدَهًا پَلَايًا
 ۲۲۷۲۔ مِّنَ الرِّضَاعَةِ دُوْدَهًا شَرِيْكًا
 ۲۲۷۳۔ رِيًّا بَاكِبًا يَهُودِيًّا كِي دَهًا رَوَكِيَّا
 ۲۲۷۴۔ جَوْبًا خَاوَدَةً سَعْنًا
 ۲۲۷۵۔ اَخْوَاتِ بَهَائِيًّا (بَهَائِيًّا)

پارہ نمبر ۵۳

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۲۴۴۔ حُجُورِ گودیاں
 ۲۲۴۵۔ فنی حُجُورِ کُمہ تمہاری گودیوں
 میں یا زیرِ پرورش
 ۲۲۴۶۔ حَلَاکِیل بیویاں
 دَحَلِیْلَۃُ بیوی
 ۲۲۴۷۔ اَصْلَابِ نسلِ رِیْثِ (واحد: صُلْبُ)
 ۲۲۴۸۔ اُخْتِیْنِ دو بہنیں (مثنیٰ)
 (واحد: اُخْتٌ)

سُوْرَةُ النِّسَاءِ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر ۵۴

- ۲۲۴۹۔ مَحْصِنَاتِ (۱) شادی شدہ عورتیں، شوہر والیاں۔
 ۲۲۵۰۔ مَحْصِنَاتِ یا دامن مرد، حصار نکاح میں محفوظ رکھنے والے، یا نکاح کی ذمے داریاں قبول کرنے والے۔

۲۲۵۱۔ مُسْفِحِیْنَ آزاد شہوت رانی کرنے والے۔

۲۲۵۲۔ اُجُورِ مہر
 ۲۲۵۳۔ طُوْرًا گنجائش، مقدور
 ۲۲۵۴۔ مَحْصِنَاتِ (۲) باوقار شریف آزاد اور خاندانی مسلم عورتیں
 جو اپنے دامن عصمت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہوں

پارہ نمبر ۵۵

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۲۵۵۔ قَنَیْتِ لونڈیاں، بانڈیاں (واحد: قَنَکٌ)
 ۲۲۵۶۔ مَحْصِنَاتِ (۳) حصارِ نکاح میں محفوظ رہنے والیاں، پارسا عورتیں
 (۴) مَحْصِنَاتِ (۴) دف، مَحْصِنَاتِ کا لفظ اس رکوع میں تین معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے اور اس کے نمبر ۳، ۲، ۱ ملاحظہ فرمائیں
 (۱) شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں،
 (۲) آزاد عورتیں یا باوقار شریف اور خاندانی مسلم خواتین، جو اپنے دامن عصمت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہوں

سُوْرَةُ النِّسَاءِ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو

- (۳) پارسا عورتیں جو حصارِ نکاح میں محفوظ رہیں، مذکورہ بالا تینوں قسم کی عورتوں پر ایک ہی لفظ مَحْصِنَاتِ کا استعمال کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن قرینہ اور پورے رکوع کی تقریر پڑھ لینے کے بعد معنی میں آسانی ہو جاتی ہے مزید سہولت کیلئے کوئی ترجمہ دیکھ کر اطمینان کر لیں تو معلوم ہوگا کہ تمام الفاظ کی اسپرٹ معنوی اعتبار سے قلعہ میں محفوظ رہنے کی ہے اسی لئے اس لفظ کے اصل معنی حِصْنِ یعنی قلعہ میں داخل کرنا ہے مَحْصِنَاتِ، اِحْصَانِ

پارہ نمبر (۲۵)

نمبر شمار عربی اُردو

سے اسم مفعول جمع
موت ہے۔

۲۲۸۷۔ عَيَّرَ مَفْعُولٌ نَهَى عَلَانِيَةً

بدکاری کیوں انبیاں
چوری چھپے آشنائی
گزرنا۔

۲۲۸۸۔ اخْدَانٌ جَوْرِيٌّ مِثْلُ آسْنَانِيٍّ

۲۲۸۹۔ اُحْصِنِ نِكَاحَ مِثْلِ جَائِسٍ

۲۲۹۰۔ اَتَيْتُنِي كَرِيْمًا وَهٖ

(صیغہ مؤنث)

۲۲۹۱۔ عَدَّتْ بِدَكَارِيٍّ

۲۲۹۲۔ سُنُّنٌ رَاهِيٌّ دَطْرِيْقِيٍّ

(واحد: سُنَّةٌ)

۲۲۹۳۔ شَهْوَاتٌ خَوَاهِشَاتٌ

۲۲۹۴۔ مَيْلٌ مُجْهَكُ جَانَانٍ

۲۲۹۵۔ عَنِ تَرَاضٍ رِضَامُنْدِيٍّ سَعِيٍّ

۲۲۹۶۔ عُدَّ وَانَا زِيَادَتِيٍّ سَعِيٍّ

۲۲۹۷۔ نَصْبِيْلِيٍّ بِهَمِّ دَاخِلٍ كَرِيْمٍ كَرِيْمٍ

۲۲۹۸۔ تَجْتَبِيْبُوْا بِجُوْكَ تَمِّمٍ

اجتناب کرو گے تم

پارہ نمبر (۲۴)

نمبر شمار عربی اُردو

(مصدر: اجتناب)
۲۲۹۹۔ كَبِيْرٌ بَرَاكِنَاهُ

۲۳۰۰۔ تَهْمُوْنَ مَنَعُ كَيْتَ جَاتِيٍّ

۲۳۰۱۔ نَكْفَرُ بِهَمِّ دُوْرٍ كَرِيْمٍ كَرِيْمٍ

۲۳۰۲۔ مَنُ خَلَا دَاخِلٌ هَمِيْنٌ كِيْ جَلَدٍ

۲۳۰۳۔ كَرِيْمًا بِاعْتَرَا مَعْتَرَا

۲۳۰۴۔ لَا تَمْنُوْا مَتَّ اَرُوْرٍ كَرِيْمٍ

مت تمنا کرو

۲۳۰۵۔ مَوَالِيٌّ وَاْرَثَ

۲۳۰۶۔ عَقَدَتْ عَهْدَ بِنْدِهِ هَمِيْنٌ

۲۳۰۷۔ اِيْمَانُكُمْ دَاخِلٌ هَمِيْنٌ بِاَتْهَمِيْنٍ

۲۳۰۸۔ قَوَامُوْنَ قَا تَمْرِيْنِيٍّ دَاخِلٌ

منتظم

۲۳۰۹۔ مَالِحَاتٌ نِيْكٌ عَوْرَتِيْنِ

۲۳۱۰۔ قُنِيْتِ فَرَا تَمْرِيْنِيٍّ عَوْرَتِيْنِ

۲۳۱۱۔ نَشُوْرٌ بِدَوَاعِيٍّ

۲۳۱۲۔ مَصَاجِعُ خَوَالِكِيْنِ لَيْسَ كِيْ جَلِيْمٍ

۲۳۱۳۔ عَلِيًّا بَلَنْدٌ عَلِيٌّ اَعْلَى

اوپر، زبردست

پارہ نمبر (۲۵)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۳۱۴۔ حَكَمًا مَنصَفٌ، تَصْفِيَّةٌ

کرنے والا

۲۳۱۵۔ جَاوِيٌّ بِرُوسِيٍّ

۲۳۱۶۔ جَاوِيٌّ بِرُوسِيٍّ اَجْنَبِيٌّ بِرُوسِيٍّ دُوْرٍ

۲۳۱۷۔ كَابِرٌ بِرُوسِيٍّ

۲۳۱۸۔ صَاحِبٌ بِاَكْرُوْثٍ كَا سَا تَهِيٍّ

نزدیک، ہم مجلس

۲۳۱۹۔ اَبْنُ السَّبِيْلِ رَاهِيٌّ مَسَا فَرٍ

۲۳۲۰۔ مُخْتَالٌ اِتْرَانِيٌّ دَاخِلٌ

۲۳۲۱۔ فَعُوْرٌ فَعُوْرٌ دَاخِلٌ

شخی بگھارنے والا

۲۳۲۲۔ قَرِيْبًا بِهَمِيْنِيْنِ تَمْرِيْنِ سَا تَهِيٍّ

مصاحب

۲۳۲۳۔ مَا دَاخِلٌ كِيَا هُوَ جَا تَا

۲۳۲۴۔ لَوْ اَكْرُوْثِيٍّ

۲۳۲۵۔ مِمَّقَالٌ بِهَمِّ وَرَنٍ، بِرَا بَرٍ

۲۳۲۶۔ اِنْ اَكْرُوْثِيٍّ

۲۳۲۷۔ تَا كُفٍ هُوَ دَاخِلٌ اَصْلٍ

۲۳۲۸۔ تَا كُفٍ مِيْنِ تَا كُفٍ تَهَا

۲۳۲۹۔ مِيْنِ لَنْ نَهَى اَسْ كِيْ يَاسٍ سَعِيٍّ

۲۳۳۰۔ جِنًّا لَاتِيْنٌ كِيْ هَمِّ

پارہ نمبر (۲۴)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۳۲۹۔ هُوَ لَاءٌ يَسْبُ اِن سَبِّ

۲۳۳۰۔ تَسْوِيٌّ بِرَا بَرٍ هُوَ جَا تِيٍّ

۲۳۳۱۔ حَلِيْبًا بِاَتٍ

۲۳۳۲۔ لَا تَقْرُبُوْا مَتَّ قَرِيْبٍ جَا تِيٍّ

(دق س ر ب)

۲۳۳۳۔ مُسْكِرِيٌّ نَشِيْمٌ

۲۳۳۴۔ جُنْبًا حَالَتُ جُنَابَتِيْنِ

۲۳۳۵۔ عَا بَرِيٌّ كُذْرَانِيٌّ دَاخِلٌ مَسَا فَرٍ

۲۳۳۶۔ تَعَسَّلُوْا غَسْلَ كَرُوْا، نَهَا لُوْ

(دغ س ل)

۲۳۳۷۔ مَرَضِيٌّ بِمَرِيْمٍ

(واحد: مَرِيْفٌ)

۲۳۳۸۔ عَا كُطٌ قَضَا تِيٍّ حَا جَتِيٍّ

جائے ضرورت

۲۳۳۹۔ لَمَسْتُمْ صَحِيْبَتِيٍّ كِي هُو تَمِّمِيٍّ

(چھو نا)

۲۳۴۰۔ تَمِّمٌ كَرُوْا تَمِّمِيٍّ

(دقصد کرنا)

۲۳۴۱۔ صَعِيْدًا مَسِيٍّ

۲۳۴۲۔ طِيْبًا پَا كِ

پارہ نمبر ۱۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۲۲۳۔ اِسْمُوحَا مَسْحُ كَرُو، ہاتھ پھیر لو
 ۲۲۲۴۔ دُجُوْلَا چہرہ (جمع)
 ۲۲۲۵۔ عَفُوْ عَافُ كَرْنِے والا
 ۲۲۲۶۔ يَحْرُقُوْنَ پھیر دیتے ہیں،
 تحریف کر دیتے ہیں
 ۲۲۲۷۔ مَوَاضِعُ جگہ، موضوع
 ۲۲۲۸۔ عَصِيْبَاتَا نمانا ہم نے یا نہیں
 مانتے ہم
 ۲۲۲۹۔ اِسْتَمِعْ سُنْ (فعل امر)
 ۲۲۳۰۔ غَيْرُ مَسْمُوعٍ نَسْنَا یا جاتو
 یہ ذو معنی لفظ ہے،
 ایک معنی تو اس کے
 یہ ہیں کہ آپ کے
 خلاف مرضی کوئی
 بات آپ کو نہیں
 سنائی جاسکتی۔
 دوسرے معنی یہ کہ
 تم اس قابل ہی
 نہیں ہو کہ کوئی تمہیں

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

نمبر شمار عربی اُردو

کچھ سنائے علاوہ اسکے
 ایک معنی یہ بھی ہیں کہ
 تم ہرے ہو جاؤ۔
 مَخَالِفِيْنَ قَرَأْنَ
 نبی اکرم کے دوران
 تقریر میں کوئی بات
 سمجھے کیلئے ٹہرنے کو
 کہتے تو اِسْتَمِعْ كِے
 ساتھ غَيْرُ مَسْمُوعٍ
 بھی کہتے۔ یہ بات
 ٹھیک اسی طرح کی
 ہے جیسے رَاعِيًا كُو
 مَوْزٍ كِرِيْرًا عَيْنًا كِهِنَا
 ۲۲۳۱۔ اِنِّيَا سِيْحُ دِكِرُ، مروڑ دیکر
 ۲۲۳۲۔ اَلْسِنَتَا زَبَانِيْنَ
 (زبان: زبان،
 عیب لگانا، طعن کرنا
 ۲۲۳۳۔ طَعْنًا
 ۲۲۳۴۔ اَتَوْمُ
 بہت بہتر، بہت
 مضبوط، بہت سیرھا
 ہم مٹھا ڈالیں گے
 ۲۲۳۵۔ نَطْمِسُ
 (ط م س)

پارہ نمبر ۱۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۲۵۶۔ نَوَدٌ ہم پھیر دیں گے
 (۵۵۷)
 ۲۲۵۷۔ اُدْبَارَا پِیْطُ (دُبُرُ: پیٹھ)
 ۲۲۵۸۔ اَصْحَابُ سِيْجِرَا لَے، اُن
 اَلْسِنَتِ كَا قَصَبٌ سَوْرَهٗ اَعْرَافِ
 میں مذکور ہے۔
 ۲۲۵۹۔ مَفْعُوْلًا كِیا كِیا، ہو کر رہے گا
 ۲۲۶۰۔ دُوْنَ ذٰلِكَ سِوَا اِسْ كِے
 ۲۲۶۱۔ اِفْتَرَاىَ بَا نَدَهْلِيَا، كَرَهْلِيَا،
 جھوٹ ٹوٹ کا
 ۲۲۶۲۔ فَيَقِيْلَا تَا كِے برابر
 ۲۲۶۳۔ جِبْتٌ بَے حقیقت،
 بَے اصل جاؤ،
 فَا لْ كِرِيْ، ٹوٹنے
 ٹوٹنے، شگون،
 ہورت اور دوسری
 ذہنی چیزوں کیلئے
 استعمال كِیا كِیا ہے
 ۲۲۶۴۔ تَقْبِرًا ذِرَا سَا، تھوڑا
 ۲۲۶۵۔ نَضِجَتْ كَلْ جَانِيْغِيْ، جل جانیگی

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

نمبر شمار عربی اُردو

۲۲۶۶۔ جَلُوْدٌ چمڑہ، کھال
 (جلد: کی جمع)

الرَّبْعُ

۲۲۶۷۔ اَبْدَانًا ہمیشہ
 ۲۲۶۸۔ نِطْلًا سِیَاہ، چھاؤں
 ۲۲۶۹۔ نِطْلِيْلًا گھنی چھاؤں
 ۲۲۷۰۔ تَوَدُّدًا پہنچاؤ
 ۲۲۷۱۔ نَعِيْمًا بہت اچھی، خوب،
 نعمت سے بھرپور
 ۲۲۷۲۔ اُولِيْ اَلْاَمْرِ صَاحِبِ حَكْمٍ
 ۲۲۷۳۔ تَا وِيْلًا اِنْجَام، خلاصہ
 ۲۲۷۴۔ يَزْعُمُوْنَ دَعْوَى كَرْتِے ہیں
 (دع م)
 ۲۲۷۵۔ يَتَخَاكَمُوْنَ فِیْصَلِیْجَا یِیْنَ
 ۲۲۷۶۔ صُدُّوْذَا ہٹ ہٹنا، پہلوئی کرنا
 ۲۲۷۷۔ يَحْلِفُوْنَ حَلْفًا اِثْلَا تِے ہیں،
 قسم کھاتے ہیں۔
 ۲۲۷۸۔ اِنْ نَبِيْنٌ ذِمَّتِيْ اِسْ
 لفظ کے "اگر" کے

بَارَةٌ مُدَبَّرَةٌ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اَلَا آنے سے معنی ہونگے نہیں
 ۲۳۷۹- تَوَفَّقْنَا موافقت، بھلائی
 ۲۳۸۰- اَعْرَضَ اعراض کر
 ۲۳۸۱- عَظَّ نصیحت کر
 ۲۳۸۲- تَوَلَّى كَلِيمًا بات پہنچی ہوئی
 ۲۳۸۳- فَلَاؤُكَ بِكَ پس تم تھے تیرے رب کی (دو اقسامیہ ہے)
 ۲۳۸۴- شَجَرَ جھکڑا واقع ہوا
 ۲۳۸۵- حَرَجًا تنگی
 ۲۳۸۶- قَضَيْتَ فیصلہ کیا تو نے
 ۲۳۸۷- سَلِمُوا مان لیں
 ۲۳۸۸- تَسَلَّمَا تابع فرمان بن کر
 ۲۳۸۹- تَتَبَّعْتَا ثابت رکھنے والا، پختہ کرنے والا۔
 ۲۳۹۰- صَارَ يَتَّبِعُنَّ سچے لوگ
 ۲۳۹۱- سَرَّ دِيْعًا دوست
 ۲۳۹۲- حُدُّوا لو
 ۲۳۹۳- جُنُّوا بچاؤ کا سامان

سُرُوْدُ الشَّامِ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۳۹۴- اِنْقَرَدَا نکلو
 ۲۳۹۵- تَبَّأَتْ متفرق، الگ الگ
 ۲۳۹۶- يَبْطِئَنَّ ہٹنا ہے، دیر کرتا ہے
 ۲۳۹۷- تَبْطِئُتَا (مصدر) دیر کرنا
 ۲۳۹۸- عَلَىٰ جھیر
 ۲۳۹۹- مَوَدَّةٌ دوستی
 ۲۴۰۰- يَلْتَمِئِي اے کاش کہ میں
 ۲۴۰۱- فَوَسْرٌ کامیابی
 ۲۴۰۲- يَشْوِيْوْنَ بیچتے ہیں
 ۲۴۰۳- مَا لَكُمْ کیا ہوا تم کو
 ۲۴۰۴- مُسْتَضْعِفِيْنَ کمزور لوگ، ناتواں
 ۲۴۰۵- وَلَدَانٌ لڑکے
 ۲۴۰۶- اَهْلَانَا رہنے والے ہیں
 ۲۴۰۷- مَن لَّدُنْكَ اپنے نزدیک سے
 ۲۴۰۸- كَيْدٌ تدبیر
 ۲۴۰۹- كُفُّوا روک رکھو
 ۲۴۱۰- حَسْبِيْةٌ ڈر، خوف
 ۲۴۱۱- تَوَلَّى کیوں نہیں

بَارَةٌ مُدَبَّرَةٌ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۱۲- اَجَلٌ وقت، مہلت
 ۲۴۱۳- فَنِيْلًا تاگے برابر
 ۲۴۱۴- اَيُّمًا جہاں کہیں بھی
 ۲۴۱۵- يَدُّ بَرَكٌ پالے گی
 ۲۴۱۶- بَرَدٌ قلعے
 ۲۴۱۷- مُسَيِّدَةٌ بلند، مضبوط
 ۲۴۱۸- فَمَالٌ پس کیا ہوا
 ۲۴۱۹- لَا يَكَاذُوْنَ نہیں قریب ہوتے
 ۲۴۲۰- يَعْقُفُوْنَ سمجھتے (مصدر)؛ فقہ
 ۲۴۲۱- طَاعَةٌ فرمانبرداری
 ۲۴۲۲- بَيَّتَ رات کے وقت
 مشورہ کرنا
 ۲۴۲۳- يُبَيِّتُوْنَ رات کو مشورہ کرتے ہیں، چھپ کر
 ۲۴۲۴- يَنْدُبُوْنَ تدریس کرتے ہیں
 غور کرتے ہیں
 ۲۴۲۵- لَوْجِدُا البتہ پاتے وہ
 ۲۴۲۶- اِدْعَاؤًا پھیلاتے ہیں
 ۲۴۲۷- يَسْتَبْطِئُوْنَ تحقیق کرتے ہیں
 ۲۴۲۸- حَرَضٌ رغبت (لا تَحْوِيْضُ) رغبت دلانا
 ۲۴۲۹- عَسِيٌّ قریب
 ۲۴۳۰- يَكْتَفُ روک دے گا
 ۲۴۳۱- اَشَدُّ بہت سخت
 ۲۴۳۲- بَأْسٌ جنگ
 ۲۴۳۳- تَنَكُّيْلًا بند کرنے میں، سخت نرا دینے میں
 ۲۴۳۴- كِفْلٌ حصہ
 ۲۴۳۵- تَحْيِيَّتَا دُعا سلام
 النصف
 ۲۴۳۶- اُرْكَسَ اُلْطَا پھیر دیا
 ۲۴۳۷- يَصْلُوْنَ ملتے ہیں
 ۲۴۳۸- حَصْرَتٌ رُكَّعٌ ہنگامے ہو گئے
 ۲۴۳۹- سَلَطَ مُسَلِّطًا مسلط کرنا
 ۲۴۴۰- تَحْرِيْرًا آزاد کرنا
 ۲۴۴۱- رَاقِبَةٌ گردن

پارۃ السام (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۴۲۔ دینۃ خون بہا
 ۲۲۴۳۔ مُسَلَّمَةٌ پورا دیا جاتے،
 سپرد کیا جاتے
 ۲۲۴۴۔ شہرین دو ماہ
 (شہر: واحد)
 ۲۲۴۵۔ مُنْتَابِعِينَ لگاتار، مسلسل
 ۲۲۴۶۔ مُتَعَبِّدًا قصداً، جان پوجھ کر
 ۲۲۴۷۔ ضی بَنَّمْ چلو تم، سفر کرو تم
 ۲۲۴۸۔ اَلْقَى ڈالا، ملاقات کیا
 ۲۲۴۹۔ لَسْتُ نہیں ہے تو
 ۲۲۵۰۔ عَرَضُ اسباب
 ۲۲۵۱۔ مَعَانِمَ غنیمتیں
 ۲۲۵۲۔ لَا یَسْتَوِی نہیں ہے برابر
 ۲۲۵۳۔ غَیْرُ اُولٰی سوائے ضرور والے،
 الفیور علاوہ ضرور والوں کے،
 چنکو کوئی عذر نہ ہو
 ۲۲۵۴۔ تُوْنِی وفات دی، جان
 قبض کی گئی
 ۲۲۵۵۔ فِیْمَا کس چیز میں
 ۲۲۵۶۔ حَیْلٌ بہانہ، حیلہ، تدبیر

پارۃ السام (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۵۷۔ مُرَاعِبًا جگہ، با فراغت مکان
 ۲۲۵۸۔ دَرَاثٌ پانا
 ۲۲۵۹۔ وَتَعٌ ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا
 ۲۲۶۰۔ تَقْصَى وَ اَلْمُكْرُو، قصر کرو
 (رق ص س)
 ۲۲۶۱۔ یَقْتِنُ فتنہ میں ڈالے
 (د ف ت ن)
 ۲۲۶۲۔ کُنْتُ ہوا تو، ہوا تو
 ۲۲۶۳۔ تَقَمُّ کھڑے ہوئے،
 قائم ہوئے
 ۲۲۶۴۔ اَسْلَمْتُمْ ہتھیار د جمع :
 سلاح کی ،
 ۲۲۶۵۔ تَأْتِ آوے
 ۲۲۶۶۔ حَذَّرًا بچاؤ کا سامان
 ۲۲۶۷۔ اَتَّبَعْتُمْ اسباب تمہارا
 ۲۲۶۸۔ مَیْلَتٌ جھک جانا، آپڑنا،
 جملہ کرنا
 ۲۲۶۹۔ وَ اِحْدَاةٌ یکبارگی
 ۲۲۷۰۔ مَطَرٌ بارش
 ۲۲۷۱۔ اَنْ تَضَعُوْا کہ رکھ دو

پارۃ السام (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۷۲۔ اَطْمَأْنَنْتُمْ اطمینان پاؤ تم
 ۲۲۷۳۔ تَأْمِنُونَ تم رنج اٹھا رہے ہو
 (ا ل م)
 ۲۲۷۴۔ تَرْجُوْنَ تم اُمید رکھتے ہو
 ۲۲۷۵۔ اَمْرٌ دکھانا
 ۲۲۷۶۔ خَائِبِينَ خیانت کرنے والے
 ۲۲۷۷۔ حَصِيْمًا جھگڑا کرنے والا،
 طرفداری کرنے والا
 ۲۲۷۸۔ اَلْمُجَادِلُ مت جدال کر
 ۲۲۷۹۔ یَخْتَاوُنَ خیانت کرتے ہیں
 ۲۲۸۰۔ خَوَانًا خیانت کرنے والا
 ۲۲۸۱۔ اَنْبِیَا گنہگار
 ۲۲۸۲۔ یُسْتَحْتَوْنَ پھپھتے ہیں
 ۲۲۸۳۔ یُبَيِّنُونَ چوری چھپے شورہ
 کرتے ہیں
 ۲۲۸۴۔ یُرْمُ تہمت لگاتے گا،
 پھینکے گا
 ۲۲۸۵۔ بَرِيْحًا بے گناہ
 ۲۲۸۶۔ اِحْتَمَلٌ اٹھالیا
 ۲۲۸۷۔ قَبِيْلًا

پارۃ السام (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۸۸۔ هَمَّتْ ارادہ کر لیا
 ۲۲۸۹۔ عَلِمَ سکھایا
 الشلثة
 ۲۲۸۹۔ نَجْوَى سرگوشی، مجلس
 گفتگو کیلئے بیٹھنا
 ۲۲۹۰۔ اِسْتَأْنَقَ اختلاف کرے گا
 ۲۲۹۱۔ نُضِيْبُهُ ہم اس کو داخل
 کریں گے۔
 ۲۲۹۲۔ مَا ذُوْنِ ذَالِكَ جو کچھ سوائے اسکے
 ۲۲۹۳۔ اِنْتِغَا دیو یاں، زبانی چیز
 ۲۲۹۴۔ مَوْبِدًا سرکش مردود
 ۲۲۹۵۔ یُبَيِّنُونَ تراشیں گے
 ۲۲۹۶۔ اِذَانٌ کان دو احد: اذُن
 ۲۲۹۷۔ اِنْعَامٌ چوپائے، مویشی
 (جمع نَعْمٌ کی)
 ۲۲۹۸۔ غُرُوْرًا فریب ڈھوکہ
 ۲۲۹۹۔ مَحِيْضًا بھانکنے کی جگہ
 ۲۳۰۰۔ اَصْدَقُ بہت سچا
 ۲۳۰۱۔ قَبِيْلًا قول، بات، وعدہ

پارہ نمبر ۲۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۵۰۲۔ نَقِيرًا ذراسا

۲۵۰۳۔ خَلِيلًا دوست

۲۵۰۴۔ يَسْتَلْقُونَ فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں۔

۲۵۰۵۔ تَزْعَبُونَ تم رغبت کرتے ہو شوہر

۲۵۰۶۔ نَعْلٌ حاضری گئی

۲۵۰۸۔ اسْتَحْجَبَ تخیل

۲۵۰۹۔ حَرَصْتُمْ حرص کرو تم

۲۵۱۰۔ مَعْلَقَةٌ ادھر میں لٹکی ہوئی تم کو بھی

۲۵۱۱۔ اِيَّاكُمْ تعریف کیا گیا

۲۵۱۲۔ حَمِيْدًا تعریف کیا گیا

۲۵۱۳۔ يَاتِ دُب، لائے گا (دائے گا)

۲۵۱۴۔ اُولَى بہتر، لائق تر، خیر خواہ

۲۵۱۵۔ اَلْهُوَايَ خواہش

۲۵۱۶۔ تَلَوُا بیچ بیانی کرو گے

پارہ نمبر ۲۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۵۱۴۔ اِنْ زَادُوا زیادہ ہو گئے،

۲۵۱۸۔ يَخْوَضُونَ بات کریں، بحث کریں، حجت بازی کرنا۔

۲۵۱۹۔ حَنِثٌ بات جمع: احادیث

۲۵۲۰۔ يَتَرَبَّصُونَ انتظار کرتے ہیں

۲۵۲۱۔ كَسَمْتُمْ غالب آئے ہم، حفاظت کی ہم نے

۲۵۲۲۔ نَمَنَعْتُمْ ہم نے پچا دیا تم کو (م ن ع)

۲۵۲۳۔ كَسَانِي کاہلی سے کسماتے ہوتے (کشل)

۲۵۲۴۔ مَلَّ يَدَايِنِي نازیب، ڈگمگاتے ہوتے

۲۵۲۵۔ سُلْطَانٌ غلبہ، حجت

۲۵۲۶۔ سُلْطَانًا مَبِينًا حجت صریح

پارہ نمبر ۲۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۵۲۷۔ اَللَّذْرُكُ درجہ

۲۵۲۸۔ اسْفَلَ بہت نیچا

۲۵۲۹۔ اَخْلَصُوا خالص کر لیا

۲۵۳۰۔ مَا كَيْفَعَلُ کیا کرے گا

نوٹ

ایک لفظ مختلف شکلیں بدل کر آتا ہے۔ تب اس کی ہر شکل سے واقفیت طالب علم کو اچھی طرح ہو جائے، اس سہولت کے پیش نظر اب تک جو الفاظ دئے گئے ہیں، انہیں بار بار دہرایا بھی گیا ہے۔

(مرتب)

سورة النشأ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر ۲۵

۲۵۳۱۔ جَهْرًا پکار کر کہنا، صاف کھلم کھلا

۲۵۳۲۔ قَدِيرًا قدرت والا

۲۵۳۳۔ حَقًّا سچے، یقینی

۲۵۳۴۔ جَهْرًا ظاہر

۲۵۳۵۔ ضَعْفَةً بجلی

۲۵۳۶۔ عَفْوًا ہم نے معاف کیا

۲۵۳۷۔ لَانَعَنُوا حد سے مت گزرو

۲۵۳۸۔ سَوِيًّا سوںی دینا

۲۵۳۹۔ شَبِيْهًا شبہ ڈال دیا گیا (شب ج)

۲۵۴۰۔ مَوْجُوْدِيْنَ دینے والے

۲۵۴۱۔ نَزُوْمًا وہ کتاب اللہ جو حضرت داؤد

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 پر نازل کی گئی۔
 ۲۵۲۲۔ قَصَصْنَا ہم نے بیان کیا
 (دق ص ص)
 ۲۵۲۳۔ تَكَلَّمْنَا بات کرنا
 ۲۵۲۴۔ مُبَشِّرِينَ خوشخبری سنانے والے
 ۲۵۲۵۔ مُنذِرِينَ ڈر، خوف سنانے والے، ڈرانے والے
 ۲۵۲۶۔ حَجَّتْ عَذْر
 ۲۵۲۷۔ طَرِيقٌ رَاح
 ۲۵۲۸۔ يَسِيرًا آسان
 ۲۵۲۹۔ لَا تَعْلَمُوا غلومت کرو
 ۲۵۳۰۔ كَلِمَةً فرمان، حکم
 ۲۵۳۱۔ أَلْقَى ڈال دیا، پہنچا دیا
 ۲۵۳۲۔ ثَلَاثَةً تین
 ۲۵۳۳۔ أَنْتَهُمْ يَا زَاجِرًا، رُكَّ جَاؤ
 ۲۵۳۴۔ لَنْ يَسْتَنْكِفَ نَكَارًا كَرَّعًا
 (ن ك ف)
 ۲۵۳۵۔ اسْتَنْكَافٌ (مصدر)
 انکار کرنا، عار کرنا
 ۲۵۳۶۔ بُوْهَانَ دلیل

سورۃ المائدہ (۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۳۷۔ يَسْتَفْتُونَ سوال پوچھتے ہیں
 ۲۵۳۸۔ ثَلَاثَانَ دوتہائی
 ۲۵۳۹۔ دَنَلْتُ ایک تہائی
 ۲۵۴۰۔ عَقُودٌ عہد (واحد)
 ۲۵۴۱۔ اَنْعَامٌ چوپائے، مویشی
 ۲۵۴۲۔ عَيْدٌ مُحَلِّيٌ نہیں حلال، یعنی
 حلال نہ سمجھو
 ۲۵۴۳۔ صَيْدٌ شکار
 ۲۵۴۴۔ حُرْمٌ حالتِ احرام میں
 (احرام ایک
 تہہ بند اور ایک
 چادر بغیر سلی ہوتی،
 جوج کے ایام میں
 حاجی لوگ پہنتے ہیں،

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۴۵۔ لَا تَحْلُوا حلال سمجھو، یعنی اللہ
 تعالیٰ کی نشانیوں کی
 بے حرمتی کرنا حلال
 نہ سمجھو۔
 ۲۵۴۶۔ شَعَائِرُ نشانیاں
 ۲۵۴۷۔ شَهْرٌ مُحَرَّمٌ محرم مہینہ، ادب کے
 لائق مہینہ
 ۲۵۴۸۔ اَلْهَدَىٰ قربانی کا جانور
 ۲۵۴۹۔ قَلَابِدٌ قربانی کے وہ جانور
 جن کے گلے میں بطور
 نذر خداوندی کی
 علامت کے پٹے
 ڈالے گئے ہوں جمع
 ہے قِلَادَةٌ کی۔
 ۲۵۵۰۔ اَصْدَانٌ قصد کرنے والے
 ۲۵۵۱۔ بَيْتٌ مُحَرَّمٌ محترم گھر،
 بیت اللہ شریف
 ۲۵۵۲۔ حَلَلْتُمْ حلال ہو تم، یعنی
 حالتِ احرام سے
 باہر آ جاؤ۔
 ۲۵۵۳۔ اِصْطَادٌ شکار کرو

سورۃ المائدہ (۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۵۴۔ اِصْطَادٌ شکار کرنا
 (ص ی د)
 ۲۵۵۵۔ لَا يَجْرُ مِنْكُمْ مَرْكَزٌ آمادہ کرتے تم کو
 ۲۵۵۶۔ شَتَانٌ دشمنی، بغض
 ۲۵۵۷۔ تَعَاوَدُوا تعاون کرو، مدد کرو
 ۲۵۵۸۔ عُدْوَانٌ زیادتی، ظلم
 الربیع
 ۲۵۵۹۔ مَيْتَةٌ مُرْدَارٌ
 ۲۵۶۰۔ دَمٌ خُون
 ۲۵۶۱۔ لَحْمٌ گوشت
 ۲۵۶۲۔ خِنْزِيرٌ سَوْر
 ۲۵۶۳۔ اَهْلٌ پیکار جاسے،
 نامزد کیا جاسے۔
 ۲۵۶۴۔ مَنَحْنَقَةٌ ایسا جانور جو کلا
 گھونٹنے سے مر گیا ہو
 ۲۵۶۵۔ مَوْتُودَةٌ ایسا جانور جو کسی
 ضرب یا لاش ماننے
 سے مر گیا ہو۔
 ۲۵۶۶۔ مَوْتُودِيَّتٌ ایسا جانور جو کسی
 جگہ سے گزر کر مر گیا ہو

پارہ نمبر ۳۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۸۷۔ فطیحة ایسا جانور جو کسی
 ٹکر سے یا سینگ
 مارنے سے مرگیا ہو
 ۲۵۸۸۔ اسْتَبْعَ ورنہ
 ۲۵۸۹۔ دُکِيتُمُ پاک کر لو تم،
 ذبح کر لو تم
 ۲۵۹۰۔ ذُبِحَ ذبح کیا جاتے
 ۲۵۹۱۔ نَصَبُ استس کا،
 آستانے، تھان
 ۲۵۹۲۔ تَشْتَقِسُهُمَا قسمت معلوم کرو
 ۲۵۹۳۔ اِنْزَالًا قسمت معلوم کرنے
 کے پائے، سٹہ
 لاشری وغیرہ جاہلیت
 جدیدہ کی پیداوار
 بھی اسی لفظ کے
 ہم معنی ہیں۔
 ۲۵۹۴۔ یَبَسُّ مایوس ہو گئے
 ۲۵۹۵۔ اَصْطَرُّ بے بس ہوا
 ۲۵۹۶۔ مَحْبَصَةٌ بھوک
 ۲۵۹۷۔ مَتَجَانَفٌ جھکنے والا، مائل
 ہونے والا۔

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۹۸۔ جَوَارِحُ زخم دینے والے
 ۲۵۹۹۔ مُكَلِّبِينَ شکار کی تعلیم لئے
 ہوتے شکاری
 جانور۔
 ۲۶۰۰۔ اَمْسَكُنْ روکے رکھیں
 ۲۶۰۱۔ مَحْضَلَتِ یا کدرا من خورتیں
 ۲۶۰۲۔ مَتَّحِجِي پیکڑنے والے
 دُمْتَحِجِي تھما،
 مضاف ہوئی وہ
 سے ن گریا،
 ۲۶۰۳۔ قُمْتُمُ گھڑے ہو تم، اٹھو تم
 ۲۶۰۴۔ اَيَّدِي دُونوں یا تھ
 ۲۶۰۵۔ مَرَأِقُ کہنیاں
 ۲۶۰۶۔ رُءُوسُ سر (جمع)
 ۲۶۰۷۔ اَمْرَجَلُ پیر درجیل (واحد)
 ۲۶۰۸۔ كَعْبَيْنِ دُونوں تھنے
 ۲۶۰۹۔ جُنْبًا حالت جنابت
 ۲۶۱۰۔ عَاظٌ جائے استنجا
 ۲۶۱۱۔ لَمَسْتُمُ صحبت کی ہو تم نے
 ۲۶۱۲۔ وَاْتَقِ قَوْلِ لِيَا سَبَّاسُ نے

پارہ نمبر ۳۸

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۶۱۳۔ جَحِيمٌ آگ کا ڈھیر
 ۲۶۱۴۔ هَمٌّ قصد کیا
 ۲۶۱۵۔ يَبْسُطُوا دراز کریں
 ۲۶۱۶۔ كَفَّ بند کر دیا
 ۲۶۱۷۔ اِثْنَيْ عَشَرَ بِارَةً
 ۲۶۱۸۔ نَقِيًّا سردار
 ۲۶۱۹۔ عَزَّزْتَهُمُ اُوت سے ساتھ دو
 ۲۶۲۰۔ نَقَصُ توڑنا
 ۲۶۲۱۔ لَا تَزَالُ نہیں فرصت پائیگا تو
 ۲۶۲۲۔ نَطَّلِعُ اطلاع پاتا رہے گا
 ۲۶۲۳۔ اَصْفَحَ درگزر کر
 ۲۶۲۴۔ اَعْرَضْنَا لگادی ہم نے
 ۲۶۲۵۔ سَوَّفَ جلدی، عنقریب
 ۲۶۲۶۔ يَصْنَعُونَ کرتے ہیں وہ
 ۲۶۲۷۔ سَبِيلٌ لاپس (واحد)
 سَبِيلٌ
 ۲۶۲۸۔ سَلَّمُ سلامتی
 ۲۶۲۹۔ مَنِ يَمْلِكُ کون اختیار رکھتا ہے؟
 ۲۶۳۰۔ يُهْلِكُ ہلاک کرے وہ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۶۳۱۔ نَحْنُ ہم
 ۲۶۳۲۔ اَبْنَاءُ دُائِبُونَ بیٹے
 ۲۶۳۳۔ اِحْبَاءُ بہت محبوب
 ۲۶۳۴۔ فِلِمٌ پس کیوں
 ۲۶۳۵۔ بَشَرٌ آدمی
 ۲۶۳۶۔ فَتْرَةٌ سلسلہ موقوف،
 توڑا پڑے پیچھے،
 دو پیغمبروں کے بیچ
 کا زمانہ جب کوئی
 نبی موجود نہ ہو۔
 ۲۶۳۷۔ لَمْ يُوْتِ نہیں دیا گیا
 ۲۶۳۸۔ مُقَدَّمِي پاك
 ۲۶۳۹۔ لَا تَزِيدُ اُمت اٹے پاؤں پھر
 جاؤ
 ۲۶۴۰۔ تَنْقَلِبُوا پلٹ جاؤ گے تم
 ۲۶۴۱۔ جَبَّارِينَ زبردست
 ۲۶۴۲۔ رَجُلِينَ دو آدمی
 ۲۶۴۳۔ اَلْبَابُ دروازہ باب
 ۲۶۴۴۔ اَبْكَا کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ

پارہ نمبر ۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۳۵۔ مَا كَاذِبًا جینک وہ رہیں گے
 ۲۴۳۶۔ اذْهَبْ توجا
 ۲۴۳۷۔ قَاتِلَا لڑو تم دونوں
 ۲۴۳۸۔ هُمْئَا اسی جگہ پر
 ۲۴۳۹۔ لَا اَمْلِكُ نہیں میں اختیار رکھتا
 ۲۴۴۰۔ نَفْسِي میری جان
 ۲۴۴۱۔ اِنِّي ميسر اچھائی
 ۲۴۴۲۔ اَفْرَقْ جدائی ڈال، فیصلہ کر
 ۲۴۴۳۔ مَحْرَمَةً حرام کی گئی
 ۲۴۴۴۔ اَرَبَعِينَ چالیس سال
 ۲۴۴۵۔ سَنَةً سال
 ۲۴۴۶۔ يَتِيَهُونَ سرگرداں پھر بیٹے
 ۲۴۴۷۔ مَارَے مارے پھر بیٹے
 ۲۴۴۸۔ لَا تَأْسُ مت غم کر، مت
 ۲۴۴۹۔ اَفْسُوسُ کر،
 ۲۴۵۰۔ وَ اَنْتُمْ اور تلاوت کر،
 النصف

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۵۹۔ نَبَاً خبیر جمع
 ۲۴۶۰۔ اِبْنِي دوی بیٹے
 ۲۴۶۱۔ قُرْبَانَا پیش کی انھوں نے
 ۲۴۶۲۔ قُرْبَانَا قربانی، نیاز
 ۲۴۶۳۔ تَقْبَلُ قبول کر لی گئی
 ۲۴۶۴۔ دَرَاذِكْرَے گا تو
 ۲۴۶۵۔ اِنِّي طرف میری
 ۲۴۶۶۔ يَدِي تیرا ہاتھ
 ۲۴۶۷۔ دَرَاذِكْرَے والا
 ۲۴۶۸۔ تَبْوَةً مستحق ہو جائیگا تو
 ۲۴۶۹۔ تَكُونُ ہو جائے
 ۲۴۷۰۔ طَوَّعَتْ رغبت دلانی
 ۲۴۷۱۔ اَصْبَحَ ہو گیا
 ۲۴۷۲۔ بَعَثَ بھیجا
 ۲۴۷۳۔ عُرَابٌ کوا
 ۲۴۷۴۔ يَبِيحُ کُریدتا ہے
 ۲۴۷۵۔ يُوَاغِرُنِي چھپائے،
 ۲۴۷۶۔ دَهَانِكْ دے
 ۲۴۷۷۔ سَوَاةً لاش
 ۲۴۷۸۔ يُوَاغِرُنِي افسوس میری حالت پر

پارہ نمبر ۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۷۸۔ اَخْرَجْنِي دوسرے
 ۲۴۷۹۔ اَكْلُونِ خوب ڈٹ کر کھاؤ
 ۲۴۸۰۔ مَالِ حَرَامٍ مال حرام
 ۲۴۸۱۔ يَحْكُمُونَ فیصلہ چاہتے ہیں
 ۲۴۸۲۔ اَحْبَابُ علماء
 ۲۴۸۳۔ عَيْنٌ آنکھ
 ۲۴۸۴۔ اَنْفٌ ناک
 ۲۴۸۵۔ اُذُنٌ کان
 ۲۴۸۶۔ يَسِّنُ دانت
 ۲۴۸۷۔ زَحْمٌ زخم (جمع)
 ۲۴۸۸۔ قِصَاصٌ بدلہ
 ۲۴۸۹۔ كُفَّارَةٌ گناہ کا کفارہ، یا
 ۲۴۹۰۔ گناہ اتارنا۔
 ۲۴۹۱۔ قَفَّيْنَا پیچھے لائے ہم
 ۲۴۹۲۔ اَنْتُمْ نشان، پیچھے
 ۲۴۹۳۔ مَهْمِيْنَا نکہبان
 ۲۴۷۸۔ اَعْرَجْنَا عاجز ہو جائیں
 ۲۴۷۹۔ اَكُونُ ہو جاؤں میں
 ۲۴۸۰۔ اُوَاغِرُنِي چھپاؤں میں
 ۲۴۸۱۔ نَادِمِينَ پشیمان (جمع)
 ۲۴۸۲۔ اَجَلٌ ذَالِكِ اِسِي واسطے
 ۲۴۸۳۔ كَانِمَا جیسا کہ
 ۲۴۸۴۔ مَهْمُونَ زیادتی کرنے والے
 ۲۴۸۵۔ يَحْكُمُونَ لڑتے ہیں
 ۲۴۸۶۔ يَسْعُونَ کوشش کرتے ہیں
 ۲۴۸۷۔ يَصْلُونَ سولی دیئے جائیں
 ۲۴۸۸۔ تَقَطَّعَ کاٹ دئے جائیں
 ۲۴۸۹۔ خِلَافٌ مخالف، جانب
 ۲۴۹۰۔ يَنْقُوْا نکال دیئے جائیں
 ۲۴۹۱۔ تَقْدِرُ دَاةً تم قدرت پاؤ
 ۲۴۹۲۔ دَسِيَّةً قُرب
 ۲۴۹۳۔ سَابِقٌ چوری کرنے والا
 ۲۴۹۴۔ سَارِقَةٌ چوری کرنے والی

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۹۵۔ نِكَالًا عتبر
 ۲۴۹۶۔ اَفْوَاهُ منہ (جمع)
 ۲۴۹۷۔ سَمِعُونَ جاسوسی کے لئے
 سننے والے
 ۲۴۹۸۔ اَخْرَجْنِي دوسرے
 ۲۴۹۹۔ اَكْلُونِ خوب ڈٹ کر کھاؤ
 ۲۵۰۰۔ مَالِ حَرَامٍ مال حرام
 ۲۵۰۱۔ يَحْكُمُونَ فیصلہ چاہتے ہیں
 ۲۵۰۲۔ اَحْبَابُ علماء
 ۲۵۰۳۔ عَيْنٌ آنکھ
 ۲۵۰۴۔ اَنْفٌ ناک
 ۲۵۰۵۔ اُذُنٌ کان
 ۲۵۰۶۔ يَسِّنُ دانت
 ۲۵۰۷۔ زَحْمٌ زخم (جمع)
 ۲۵۰۸۔ قِصَاصٌ بدلہ
 ۲۵۰۹۔ كُفَّارَةٌ گناہ کا کفارہ، یا
 ۲۵۱۰۔ گناہ اتارنا۔
 ۲۵۱۱۔ قَفَّيْنَا پیچھے لائے ہم
 ۲۵۱۲۔ اَنْتُمْ نشان، پیچھے
 ۲۵۱۳۔ مَهْمِيْنَا نکہبان

پارہ نمبر ۵۵

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۷۱۳۔ شریعت
 ۲۷۱۴۔ منہا جفا راہ عمل
 ۲۷۱۵۔ خیرات بھلے کام، بہتر کام
 ۲۷۱۶۔ یتوں دوست رکھے گا
 ۲۷۱۷۔ ۵ ایزکے گروش، چکر
 ۲۷۱۸۔ اُسَمُوَا قسم کھانی انھوں نے
 ۲۷۱۹۔ جہن سخت
 ۲۷۲۰۔ اَیْمَانِہُمْ قسمیں انکی
 الثلثت
 ۲۷۲۱۔ یرتد پھر جائے گا
 ۲۷۲۲۔ اذیہ نرمی کرنے والے
 ۲۷۲۳۔ اعزۃ سخت
 ۲۷۲۴۔ لومۃ ملامت کرنا
 ۲۷۲۵۔ لاکم ملامت کرنے والا
 ۲۷۲۶۔ جرب جمع، جماعت
 ۲۷۲۷۔ جمع: اخراب
 ۲۷۲۸۔ لعیبا بیکارتے ہو تم
 ۲۷۲۹۔ تہیبون تم عیب پاتے ہو

سورۃ المائدہ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۷۳۰۔ هل اُنبتکم کیا جڑوں میں تمکو
 (ن ب ۶)
 ۲۷۳۱۔ منویۃ جزا، ثواب
 ۲۷۳۲۔ قرۃ بندر
 (قرۃ: بندر و ادھر)
 ۲۷۳۳۔ خنازیر سور (جمع)
 ۲۷۳۴۔ شوکانا برا ٹھکانہ
 ۲۷۳۵۔ اصل بہت بیکے، گمراہ
 ۲۷۳۶۔ لولا کیوں نہیں
 ۲۷۳۷۔ رانیون درویش لوگ
 ۲۷۳۸۔ اخیار علماء لوگ
 ۲۷۳۹۔ معلولہ تنگ ہوئے،
 بندھ گئے۔
 ۲۷۴۰۔ غلت تنگ کر دئے گئے،
 باندھ دئے گئے۔
 ۲۷۴۱۔ جنسوطین بھلے ہوئے، کشادہ
 ۲۷۴۲۔ القینا ڈال دیا ہم نے
 ۲۷۴۳۔ اوقدوا سلگاتے ہیں
 ۲۷۴۴۔ حراب لڑائی
 ۲۷۴۵۔ اطفأ بجھا دیتا ہے
 ۲۷۴۶۔ کفرنا دُور کر دیتے ہیں ہم

پارہ نمبر ۵۶

نمبر شمار عربی اُردو
 معاف کر دیتے ہیں ہم
 ۲۷۴۷۔ مقتصدہ بیچ کی راہ والی
 ۲۷۴۸۔ ساء خراب بُرا
 ۲۷۴۹۔ یحصم پچائے گا
 (مصدر: عصمۃ)
 ۲۷۵۰۔ لستم نہیں ہو تم
 ۲۷۵۱۔ تقموا قائم کرو تم
 ۲۷۵۲۔ لاتانس مت غم کرو
 ۲۷۵۳۔ ہادوا یہودی ہو گئے
 ۲۷۵۴۔ صابون ستارہ پرست
 (فرقہ صابی)
 ۲۷۵۵۔ لاتہوی نہیں چاہتے تھے
 ۲۷۵۶۔ حسبوا گمان کیا انھوں نے
 ۲۷۵۷۔ عکوا اندھے ہوئے
 ۲۷۵۸۔ صموا بہرے ہوئے
 ۲۷۵۹۔ ثالث ثلثہ تیسرا تین میں کا،
 یائین میں سے ایک
 ۲۷۶۰۔ صلیقتا بہت سچی عورت
 ولی صفت خاتون
 ۲۷۶۱۔ کانایا کلان دونوں کھاتے تھے

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۷۶۲۔ انظر دیکھ
 ۲۷۶۳۔ یؤذون اُسے لڑکے جارہے ہیں
 ۲۷۶۴۔ لعن لعنت کی گئی
 (فعل مجہول)
 ۲۷۶۵۔ علی لسان زبان سے
 ۲۷۶۶۔ عصوا نافرمانی کی
 ۲۷۶۷۔ یعدون حد سے نکل گئے تھے
 ۲۷۶۸۔ اعتلوا حد سے نکلنا
 ۲۷۶۹۔ لایبتاھون نہیں منگرتے تھے
 ۲۷۷۰۔ لبس البتہ بُرا،
 بہت بُرا۔
 ۲۷۷۱۔ ترائ دیکھے گا تو
 ۲۷۷۲۔ یؤذون دوستی کرتے ہیں
 ۲۷۷۳۔ قد مت آگے بھیجا
 ۲۷۷۴۔ سخط ناراض ہوا
 ۲۷۷۵۔ لحن البتہ پائے تو
 ۲۷۷۶۔ مؤذۃ دوستی، جاہت
 ۲۷۷۷۔ قیسین پڑھے لکھے لوگ
 ۲۷۷۸۔ رھبنا درویش لوگ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو



۲۴۸۹- سَمِعُوا سُنْتَةَ بِيْن
 ۲۴۹۰- اَعْتَنَهُمْ اَنْ تَكْفُرُوْنَ
 ۲۴۹۱- اَنْصَابُ تَهْمَانِ، اَسْتَانِي، بَرْت
 ۲۴۹۲- رَجْسٌ كَنْدِي، نَپَاك
 ۲۴۹۳- يَوْمِ قِيَامٍ، كُوْدَلِي، كَا، دَاغِ كَرِي، كَا
 ۲۴۹۴- هَلْ كِيَا
 ۲۴۹۵- مَنْتَهَوْنَ بَا زَا جَانِي وَا لِي
 رُكْ جَانِي وَا لِي
 ۲۴۹۶- تَوَلَّيْتُمْ بِيْهَر جَا وَا تَم
 ۲۴۹۷- حَصِيْلٌ شِكَا ر
 ۲۴۹۸- تَنَالُ بِيْهِنِجِي كَا
 ۲۴۹۹- رَمَاحُ نِيْرِي
 ۲۵۰۰- نَعَمُ جَانُوْر، چُوْپَا يِي
 ۲۵۰۱- ذُوْا اَعْدَالٍ دُو الْاَنْصَابِ وَا لِي
 آدِي
 ۲۵۰۲- بَالِغَةُ الْكَلْبِيَّةِ بِيْهِنِي يَا جَانِي كَعْبِي
 نِك
 ۲۵۰۳- وَبَالَ وَبَالَ، شَامِت

۲۴۸۹- سَمِعُوا سُنْتَةَ بِيْن
 ۲۴۹۰- اَعْتَنَهُمْ اَنْ تَكْفُرُوْنَ
 ۲۴۹۱- اَنْصَابُ تَهْمَانِ، اَسْتَانِي، بَرْت
 ۲۴۹۲- رَجْسٌ كَنْدِي، نَپَاك
 ۲۴۹۳- يَوْمِ قِيَامٍ، كُوْدَلِي، كَا، دَاغِ كَرِي، كَا
 ۲۴۹۴- هَلْ كِيَا
 ۲۴۹۵- مَنْتَهَوْنَ بَا زَا جَانِي وَا لِي
 رُكْ جَانِي وَا لِي
 ۲۴۹۶- تَوَلَّيْتُمْ بِيْهَر جَا وَا تَم
 ۲۴۹۷- حَصِيْلٌ شِكَا ر
 ۲۴۹۸- تَنَالُ بِيْهِنِجِي كَا
 ۲۴۹۹- رَمَاحُ نِيْرِي
 ۲۵۰۰- نَعَمُ جَانُوْر، چُوْپَا يِي
 ۲۵۰۱- ذُوْا اَعْدَالٍ دُو الْاَنْصَابِ وَا لِي
 آدِي
 ۲۵۰۲- بَالِغَةُ الْكَلْبِيَّةِ بِيْهِنِي يَا جَانِي كَعْبِي
 نِك
 ۲۵۰۳- وَبَالَ وَبَالَ، شَامِت

۲۴۸۹- سَمِعُوا سُنْتَةَ بِيْن
 ۲۴۹۰- اَعْتَنَهُمْ اَنْ تَكْفُرُوْنَ
 ۲۴۹۱- اَنْصَابُ تَهْمَانِ، اَسْتَانِي، بَرْت
 ۲۴۹۲- رَجْسٌ كَنْدِي، نَپَاك
 ۲۴۹۳- يَوْمِ قِيَامٍ، كُوْدَلِي، كَا، دَاغِ كَرِي، كَا
 ۲۴۹۴- هَلْ كِيَا
 ۲۴۹۵- مَنْتَهَوْنَ بَا Zَا جَانِي وَا لِي
 رُكْ جَانِي وَا لِي
 ۲۴۹۶- تَوَلَّيْتُمْ Bِيْهَر جَا وَا Tَم
 ۲۴۹۷- حَصِيْلٌ شِكَا R
 ۲۴۹۸- تَنَالُ Bِيْهِنِجِي كَا
 ۲۴۹۹- رَمَاحُ نِيْرِي
 ۲۵۰۰- نَعَمُ جَانُوْر، چُوْپَا يِي
 ۲۵۰۱- ذُوْا اَعْدَالٍ دُو الْاَنْصَابِ وَا لِي
 آدِي
 ۲۵۰۲- بَالِغَةُ الْكَلْبِيَّةِ Bِيْهِنِي يَا جَانِي كَعْبِي
 نِك
 ۲۵۰۳- وَبَالَ وَبَالَ، شَامِت

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو

۲۸۰۳- عَادٌ بِيْهَرِي سِيَا
 ۲۸۰۴- صَيِّدُ الْبَيْتِ شِكَا ر شِكَا لِي
 ۲۸۰۵- سَيِّارَةٌ مَسَا فِرٌ دَقَا فِلْمِ
 ۲۸۰۶- بَيْتِ الْاَحْوَا اَحْرَامِ كِي لَانِ كَهْر
 ۲۸۰۷- بَحِيْرَةٌ كَانِ بِيْهَرِي كَهْرِي
 ۲۸۰۸- سَائِبَةٌ سَانِدُ بُوْغِيْرِ اللّٰهِ كِي
 ۲۸۰۹- دَوِيْلِيْنِ قَرِيْبِ كِي لُوْكَ
 ۲۸۱۰- اِدْنِيْ بِيْهَرِي نَزْدِيْكَ
 ۲۸۱۱- دَوِيْلِيْنِ قَرِيْبِ كِي لُوْكَ
 ۲۸۱۲- حَصِيْلَةٌ اِيْسِيْ اِدْنِيْ، جُوْلِيْكَ
 ۲۸۱۳- مَادِي جِنِيْ كِي بَعْدِ
 ۲۸۱۴- مَادِي جِنِيْ كِي بَعْدِ
 ۲۸۱۵- جِيْنِي، يِعْنِي مَادِي مَلَانِي
 ۲۸۱۶- مَشْرِكِيْنِ كَا طَرِيْقِي تَهَا
 ۲۸۱۷- كِي اِيْسِيْ اِدْنِيْ كُو
 ۲۸۱۸- غِيْرِ اللّٰهِ كِي نَامِ بِيْرِ
 ۲۸۱۹- چُوْطِي دِيْتِي كَهِي
 ۲۸۲۰- دِيْنِ نِيْجِي جِنَانِي
 ۲۸۲۱- وَا لَا اُوْرَثُ
 ۲۸۲۲- كَانِي بِيْهَرِي كُو
 ۲۸۲۳- پَا يَا بِيْهَرِي
 ۲۸۲۴- اِثْنِيْنِ دُو
 ۲۸۲۵- تَحْبِيْسُوْنَ رُوْكَ لُوْكَ
 ۲۸۲۶- اِنْ تَبَيَّنَ شِكْ بِيْنِ بِيْرُوْمِ
 ۲۸۲۷- اِثْمِيْنِ كِنْدِي كَارُوْكَ
 ۲۸۲۸- اَعْتَدُ اَطْلَاغِ يَانِي جَانِي
 ۲۸۲۹- اِسْتَحَقَّا سَرْتَقِي بِيْهَرِي وَهِي
 ۲۸۳۰- اَوَّلِيْنِ قَرِيْبِ كِي لُوْكَ
 ۲۸۳۱- اِدْنِيْ بِيْهَرِي نَزْدِيْكَ
 ۲۸۳۲- ذُوْكَرْدِي جَانِي لِيْكَ
 ۲۸۳۳- رُوْكَرْدِي جَانِي لِيْكَ
 ۲۸۳۴- مَادَا كِيَا
 ۲۸۳۵- اِحْبَابِيْكُمْ جُوْبِ دِيْتِي كِي تَم
 ۲۸۳۶- صَهْدٌ گُوْوَارِي، بِيْجِيْنِ
 ۲۸۳۷- اِدْبِيْرُ عَمْرِ
 ۲۸۳۸- طِيْنٌ مِيْشِي
 ۲۸۳۹- كَهْبِيْبِيْعَتِي جِيْسِي كِي صُوْرَتِ
 ۲۸۴۰- تَفْخِيْحٌ تُوْچُوْ نِلْتَنَا (تَهَا)
 ۲۸۴۱- تَنْبِيْغِي تُوْچُوْ جَا كَرْدِيْتَا (تَهَا)

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۳۱- اَكْمَةَ مادر زاد اندھے کو
 ۲۸۳۲- اَبْرَصٌ کوڑھی کو
 ۲۸۳۳- كَفَقْتُ روک دیا میں نے

الربیع

۲۸۳۴- مَا اَقْلَتْ کھانے کا دسترخوان
 ۲۸۳۵- مَا اَقْلَتْ نہیں کہا میں نے
 ۲۸۳۶- مَا دُمْتُ جیتک رہا میں
 ۲۸۳۷- بَرَقَبَيْتُ نگہبان
 ۲۸۳۸- فَوَسْرٌ کامیابی

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

۲۸۳۹- يَعْزِبُ اُنَّ بربڑھے ہاتے ہیں
 ۲۸۴۰- اَجَلَ مَسْمِيٍّ وقت مقرر
 ۲۸۴۱- تَهْتَدُونَ تم شکرتے ہو
 ۲۸۴۲- مَوْضِعِينَ اعراض کرنے والے

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۴۳- سَوَفَ تغافل کرنے والے
 ۲۸۴۴- اَبْقَاؤُا عقرب، جلد خیریں
 ۲۸۴۵- فَرْنٌ زمانہ، ایک نہ ایک

۲۸۴۶- مَكْنًا وقت کے لوگ (مخفی ہوئے)
 ۲۸۴۷- مَكْنٌ ہم نے طاقت دی
 ۲۸۴۸- مَكْنٌ ٹھکانہ دینا،

۲۸۴۹- مَكْنٌ متمکن کرنا،
 ۲۸۵۰- مَكْنٌ طاقت دینا،
 ۲۸۵۱- مَكْنٌ جمادینا، جگہ دینا

۲۸۵۲- مَكْنٌ زور کی بارش
 ۲۸۵۳- مَكْنٌ نہریں
 ۲۸۵۴- مَكْنٌ گناہ

۲۸۵۵- مَكْنٌ اٹھایا ہم نے،
 ۲۸۵۶- مَكْنٌ پیدا کیا ہم نے
 ۲۸۵۷- مَكْنٌ کاغذ

۲۸۵۸- مَكْنٌ چھونا
 ۲۸۵۹- مَكْنٌ فرشتہ
 ۲۸۶۰- مَكْنٌ جمع: ملاؤ گے

۲۸۶۱- مَكْنٌ شبہ ڈالتے ہیں
 ۲۸۶۲- مَكْنٌ شبہ کرتے ہیں

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۶۳- حَاقٌّ گھیر لیا
 ۲۸۶۴- سَخِرُوا مستحی کی انھوں نے
 ۲۸۶۵- سَخِرُوا ٹھٹھا کرنا، مستحی کرنا

۲۸۶۶- سَيْرٌ سیر کرو
 ۲۸۶۷- عَاقِبَةٌ انجام
 ۲۸۶۸- مَكْنٌ بھٹلانے والے

۲۸۶۹- مَكْنٌ کس کے لئے
 ۲۸۷۰- مَكْنٌ بستہ ہے، رہتا ہے
 ۲۸۷۱- مَكْنٌ بنانے والا

۲۸۷۲- مَكْنٌ کھلاتا ہے
 ۲۸۷۳- مَكْنٌ کھلایا نہیں جاتا
 ۲۸۷۴- مَكْنٌ حکم دیا گیا میں

۲۸۷۵- مَكْنٌ پھیرا جاتے
 ۲۸۷۶- مَكْنٌ اُس دن
 ۲۸۷۷- مَكْنٌ کھولنے والا

۲۸۷۸- مَكْنٌ دُور کرنے والا
 ۲۸۷۹- مَكْنٌ قابو یافتہ، زبردست
 ۲۸۸۰- مَكْنٌ اوپر

۲۸۸۱- مَكْنٌ کونسی
 ۲۸۸۲- مَكْنٌ

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۸۳- اِنْعَامٌ جھوٹ بانڈھ لیا
 ۲۸۸۴- اِنْعَامٌ کہاں
 ۲۸۸۵- اِنْعَامٌ تم زعم کرتے تھے،
 ۲۸۸۶- اِنْعَامٌ دنیوی کرتے تھے

۲۸۸۷- اِنْعَامٌ نہ ہوگی
 ۲۸۸۸- اِنْعَامٌ قندہ بازی انکی،
 ۲۸۸۹- اِنْعَامٌ یہاں بازی انکی

۲۸۹۰- اِنْعَامٌ قسم اللہ کی
 ۲۸۹۱- اِنْعَامٌ نہ تھے ہم
 ۲۸۹۲- اِنْعَامٌ کان دھرتا ہے

۲۸۹۳- اِنْعَامٌ حجاب،
 ۲۸۹۴- اِنْعَامٌ سمجھنا
 ۲۸۹۵- اِنْعَامٌ بوجھ

۲۸۹۶- اِنْعَامٌ بیجا دُور بھگتے ہیں،
 ۲۸۹۷- اِنْعَامٌ جدال کرتے ہیں
 ۲۸۹۸- اِنْعَامٌ کہانیاں

۲۸۹۹- اِنْعَامٌ پہلے لوگ
 ۲۹۰۰- اِنْعَامٌ منع کرتے ہیں
 ۲۹۰۱- اِنْعَامٌ رُکے رہتے ہیں

۲۹۰۲- اِنْعَامٌ (دُور رہتے ہیں)